

النَّجَابَةُ

فِي

مَنَاقِبُ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ

(صحابہ کرام ﷺ اور اہل بیت اطہار ﷺ کے فضائل و مناقب)



www.MinhajBooks.com
منہاج القرآن پبلیکیشنز


365-ایم، ماؤن ٹاؤن لاہور، فون: 5168514، 042-111-140-140

یوسف مارکیٹ، غزنی سڑک، اردو بازار، لاہور، فون: 042-7237695

www.Minhaj.org - sales@Minhaj.org

www.MinhajBooks.com

منہاج انٹرنیٹ پیورو کی پیشکش



مَوْلَايَ صَلَّى وَسَلِّمَ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
وَالآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ فَهُمْ
أَهْلُ التَّقَى وَالنَّقَى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

جملہ حقوق بحق تحریک منہاج القرآن محفوظ ہے

نام کتاب :	النجابة في مناقب الصحابة
تالیف :	والقرابة
معاونین تخلص :	شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
زیر اہتمام :	فیض اللہ بغدادی، حافظ ظہیر احمد الاسنادی
مطبع :	فرید ملت ریسرچ انسٹی ٹیوٹ
إشاعت اول :	ستمبر 2008ء
تعداد :	1,100
قیمت :	-/- 400 روپے

نوٹ: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصانیف اور ریکارڈ ڈھنڈاتا وے پرچرخ کی کیسٹس اور CDs سے حاصل ہونے والی جملہ آمد فی ان کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تحریک منہاج القرآن کے لیے وقف ہے۔
 (ڈائریکٹر تحریک منہاج القرآن پبلی کیشنز)

fmri@research.com.pk

حکومتِ پنجاب کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس او (پی۔۱) ۸۰/۱-۳ پی آئی وی، موَرّخہ ۳۱ جولائی ۱۹۸۳ء؛ حکومتِ بلوچستان کی چھٹی نمبر ۷-۸/۲۰ جز ل ۳-۹/۷۰، موَرّخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۸۷ء؛ حکومتِ شمال مغربی سرحدی صوبہ کی چھٹی نمبر ۱۱۲۷-۲۲۷۱ این۔۱ / اے ڈی (لائبیری)، موَرّخہ ۲۰ اگست ۱۹۸۶ء؛ اور حکومتِ آزاد ریاست جموں و کشمیر کی چھٹی نمبر س ت / انتظامیہ ۶۳/۸۰۶۱-۹۲، موَرّخہ ۲ جون ۱۹۹۲ء کے تحت ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف کردہ کتب تمام سکولز اور کالجز کی لائبریریوں کے لئے منظور شدہ ہیں۔

www.MinhajBooks.com

فہرست

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٢٧	مَنَاقِبُ صَحَابَةِ الرَّسُولِ حضور ﷺ کے صحابہ کرام ﷺ کے مناقب	١ . <u>الْبَابُ الْأَوَّلُ:</u>
٢٩	فَصْلٌ فِي كَوْنِ قَرْنِ الصَّحَابَةِ خَيْرِ الْقُرُونِ صحابہ کرام ﷺ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہونے کا بیان	١ .
٣٦	فَصْلٌ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ طُوبَى لِمَنْ رَآنِي حضور ﷺ کی زیارت کرنے والے مؤمنین کے لئے خوش خبری کا بیان	٢ .
٤٠	فَصْلٌ فِي أَنَّ الصَّحَابَةَ أَمْنَةٌ لِأَمْتَهِ صحابہ کرام ﷺ کا آپ ﷺ کی امت کے لئے سبی امان ہونے کا بیان	٣ .
٤٤	فَصْلٌ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى أَصْحَابِهِ	٤ .

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٤٩	<p>﴿ حضور ﷺ کا اپنے صحابہ ﷺ کی محافظت کا حکم دینے کا بیان ﴾</p>	٥.
٥٣	<p>فَصْلٌ فِي التَّوَسُّلِ بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْفَتْحِ</p> <p>﴿ صحابہ کرام ﷺ کے توسل سے حصول فتح کا بیان ﴾</p>	٦.
٦٠	<p>فَصْلٌ فِي تَحْرِيمِ سَبِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ</p> <p>﴿ صحابہ کرام ﷺ کو برا بھلا کہنے کی ممانعت ﴾</p>	٧.
٦٧	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ أَصْحَابِهِ ﷺ</p> <p>﴿ صحابہ کرام ﷺ کے جامع مناقب کا بیان ﴾</p>	٢.
٦٩	<p><u>الْبَابُ الثَّانِي:</u></p> <p>مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p> <p>﴿ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب ﴾</p> <p>فَصْلٌ فِيمَا يَتَعلَّقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَكُونِهِ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ وَأَوَّلَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ</p>	١.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
	<p>﴿سَيِّدُنَا صَدِيقُ الْكَبِيرِ ﴾ کے نام و نسب، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے اور سب سے پہلے مددِ قرآن ہونے کا بیان ﴿</p>	
٧٥	<p>٢۔ فَصُلُّ فِي مَنْزِلَتِهِ ﴿عِنْدَ النَّبِيِّ ﴾ ﴿ بَارِگَاهِ رسالت ﴿ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴾ میں حضرت ابوکبر صدیق ﴿ کا مقام و مرتبہ ﴿</p>	
٨١	<p>٣۔ فَصُلُّ فِي أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ حُبًا لِلنَّبِيِّ ﴿ صَدِيقُ الْكَبِيرِ ﴾ کے عشق رسول ﴿ کا بیان ﴿</p>	
٩٢	<p>٤۔ فَصُلُّ فِي أَنَّ النَّبِيِّ اتَّخَذَهُ صَاحِبًا لَهُ وَرَفِيقًا وَنَائِبًا وَوَزِيرًا ﴿ حضور ﴿ کا صدیق اکبر ﴿ کو اپنا ساتھی، دوست، نائب، اور وزیر قرار دینے کا بیان ﴿</p>	
٩٧	<p>٥۔ فَصُلُّ فِي مُصَاحِبَتِهِ النَّبِيِّ ﴿ فِي الْغَارِ وَالْمَزارِ</p> <p>﴾ حضرت ابوکبر ﴿ کا حضور ﴿ کا رفیقِ غار و مزار ہونے کا بیان ﴿</p>	

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
١٠٠	<p>فَصْلٌ فِي مَكَانَةِ أَبِي بَكْرٍ <small>رضي الله عنه</small> فِي الْآخِرَةِ</p> <p>﴿روز آخرت حضرت صدیق اکبر ﷺ کا مقام و مرتبہ﴾</p>	٦.
١٠٥	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ</p> <p>﴿حضرت صدیق اکبر ﷺ کی جامِع صفات اور مناقب کا بیان﴾</p>	٧.
	<p><u>الْبَابُ الْثَالِثُ:</u></p>	٣.
١١٥	<p>مَنَاقِبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ</p> <p>﴿حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه کے مناقب﴾</p>	
١١٧	<p>فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِسْلَامِهِ</p> <p>﴿حضرت عمر فاروق رضي الله عنه کے قول اسلام کا بیان﴾</p>	١.
١٢١	<p>فَصْلٌ فِي مَنْزِلَتِهِ <small>رضي الله عنه</small> عِنْدَ النَّبِيِّ <small>صلوات الله عليه وسلم</small></p> <p>﴿بارگاہ رسالت ﷺ میں حضرت عمر رضي الله عنه کا مقام و مرتبہ﴾</p>	٢.
١٢٧	<p>فَصْلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ <small>صلوات الله عليه وسلم</small>: لَوْ كَانَ نَبِيًّا بَعْدِي لَكَانَ</p> <p>عُمَرُ</p>	٣.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
۱۲۹	<p>﴿فَرْمَانِ رَسُولِ ﷺ: أَكْرَمْرَ بَعْدَ كُوئِيْنِ نَبِيٍّ هُوتَاتُ وَهُوَ عَمْرٌ هُوتَانٌ﴾</p> <p>فَصْلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفْرُّ مِنْ</p>	۴.
۱۳۴	<p>فَصْلٌ فِي تَبْشِيرِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِالْجَنَّةِ</p> <p>﴿حَضُورِ ﷺ كَحَضْرَتِ عَمِرٍ ﷺ كَجَنَّتِ كَبِشَارَتِ دِيَنَا﴾</p>	۵.
۱۳۹	<p>فَصْلٌ فِيمَا وَرَدَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مِنْ مُوَافَقَتِهِ ﷺ</p> <p>لِلْوَحْيِ</p> <p>﴿حَضْرَتِ عَمِرٍ ﷺ كَرَائِيْكَ مَطَابِقِ نَزُولِ وَهِيَ الْهِيَّ كَا بِيَان﴾</p>	۶.
۱۴۹	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ ﷺ</p> <p>﴿حَضْرَتِ عَمِرٍ ﷺ كَجَامِعِ صِفَاتِ اُورِمَنَاقِبِ كَا بِيَان﴾</p>	۷.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
١٦٥	مَنَاقِبُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ <small>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small>	٤ . الْبَابُ الرَّابُّ :
١٦٧	فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهِ <small>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small> عِنْدَ النَّبِيِّ <small>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small>	١ .
١٧١	فَصْلٌ فِي اخْتِصَاصِهِ <small>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small> بِأَنَّهُ أَشَدُ الْأُمَّةِ حَيَاءً	٢ .
١٧٣	فَصْلٌ فِي تَبْشِيرِ النَّبِيِّ <small>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small> لَهُ بِمُرَافَقَتِهِ فِي الْجَنَّةِ	٣ .
١٧٧	فَصْلٌ فِي اخْتِصَاصِ كَوْنِهِ <small>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small> ذَا التُّورَيْنِ	٤ .

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
۱۸۳	<p>فَصْلٌ فِي اخْتِصَاصِهِ بِإِقَامَةِ يَدِ النَّبِيِّ مُصَاحِّفَتِهِ مَقَامَ</p> <p>يَدِهِ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ</p>	۵.
۱۸۹	<p>فَصْلٌ فِي اخْتِصَاصِهِ بِإِقَامَةِ يَدِ النَّبِيِّ مُصَاحِّفَتِهِ مَقَامَ</p> <p>حضور مُصَاحِّفَتِهِ کا بیعت رضوان میں اپنے دستِ مبارک کو دستِ عثمان قرار دینے کا بیان</p>	۶.
۱۹۵	<p>فَصْلٌ فِي إِعْلَامِ النَّبِيِّ مُصَاحِّفَتِهِ إِيَّاهُ بِاسْتِشَاهِدِهِ</p> <p>حضور مُصَاحِّفَتِهِ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر دینا</p>	۷.
۲۰۵	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ</p> <p>حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جامع صفات اور مناقب کا بیان</p> <p><u>الْبَابُ الْخَامِسُ:</u></p>	۵.
۲۰۷	<p>مَنَاقِبُ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَمُ اللَّهِ وَجْهُهُ</p> <p>حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب</p>	۱.
۲۰۷	<p>فَصْلٌ فِي كَوْنِهِ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَصَلَّى</p> <p>حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام اور نماز پڑھنے میں اولیت کا بیان</p>	

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٢١٢	فَصْلٌ فِي مَكَانَتِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ﴿بَارِكَاهُ رَسَالَتُ ﷺ مِنْ حَضْرَتِ عَلَى ﷺ كَمَقْامٍ وَمَرْتَبٍ﴾	٢.
٢٢٧	فَصْلٌ فِي كَوْنِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْتِ ﴿حَضْرَتُ عَلَى ﷺ كَأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ ﷺ مِنْ سَهْنَةٍ﴾ بيان	٣.
٢٣٣	فَصْلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيَّ مَوْلَاهٌ ﴿فَرْمَانٌ مُصْطَفَى ﷺ: جِسْ كَمِنْ مَوْلَا ہوں اس کا علیٰ مَوْلَا ہے﴾	٤.
٢٤٩	فَصْلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ عَلَيَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَ عَلَيَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ﴿أَحَبَّ عَلَى ﷺ حَبٌّ مُصْطَفَى ﷺ اور بُعْضٌ عَلَى ﷺ بُغْضٌ مُصْطَفَى ﷺ ہونے کا بیان﴾	٥.
٢٥٥	فَصْلٌ فِي مَكَانَتِهِ عِنْدَ الْعِلْمِيَّةِ ﴿حَضْرَتُ عَلَى ﷺ کے عَلَمِي مَقْامٍ وَمَرْتَبَهُ کا بیان﴾	٦.
٢٥٨	فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ عِنْدَ	٧.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
۲۷۳	<p>﴿حضرت علی ﷺ کی جامع صفات اور مناقب کا بیان﴾</p> <p><u>البَابُ السَّادِسُ:</u></p>	۶.
۲۷۵	<p>جامعُ مَنَاقِبِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ</p> <p>﴿خلفاء راشدین ﷺ کے جامع مناقب﴾</p> <p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ</p> <p>﴿خلفاء راشدین ﷺ کے جامع مناقب کا بیان﴾</p>	۱.
۳۰۵	<p><u>البَابُ السَّابِعُ:</u></p> <p>مَنَاقِبُ الْمُهَاجِرِينَ</p> <p>﴿مهاجرین صحابہ کرام ﷺ کے مناقب﴾</p>	۷.
۳۰۷	<p>فَصْلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اُمُرَءًا مِنَ الْاَنْصَارِ</p> <p>﴿فرمانِ رسول ﷺ: اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا﴾</p>	۱.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٣١٠	فَصْلٌ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُهَاجِرِينَ ﴿حضور ﷺ کا مہاجرین کے لئے دعا فرمانے کا بیان﴾	٢.
٣١٥	فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ فِي فَضْلِهِمْ ﴿فضیلت مہاجرین ﷺ کا بیان﴾	٣.
٣٢٠	فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِهِمْ ﴿مہاجرین صحابہ کرام ﷺ کے جامع مناقب کا بیان﴾	٤.
٣٢٧	الْبَابُ الثَّامِنُ: مَنَاقِبُ الْأَنْصَارِ ﴿انصار صحابہ کرام ﷺ کے مناقب کا بیان﴾	٨.
٣٢٩	فَصْلٌ فِي حُبِ الْأَنْصَارِ مِنَ الإِيمَانِ ﴿النصار ﷺ کی محبت علامت ایمان ہے﴾	١.
٣٣٤	فَصْلٌ فِي نُصْرَةِ الْأَنْصَارِ لِلنَّبِيِّ ﷺ ﴿انصار ﷺ کا حضور ﷺ کی مدد و نصرت کرنے کا بیان﴾	٢.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
۳۶۱	<p>فَصْلٌ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَنْصَارِ وَلَا بُنَائِهِمْ وَنَسَائِهِمْ</p> <p>﴿حضرور ﷺ کا انصار اور ان کی اولاد و ازادج کے لئے دعا فرمانے کا بیان﴾</p>	۳.
۳۶۴	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ</p> <p>﴿الأنصار صحابہ ﷺ کے جامع مناقب کا بیان﴾</p>	۴.
۳۷۱	<p><u>الْبَابُ التَّاسِعُ:</u></p> <p>مَنَاقِبُ أَهْلِ بَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيةِ</p> <p>﴿اہل بدرا اور اہل حدیبیہ صحابہ ﷺ کے مناقب﴾</p>	۹.
۳۷۳	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيةِ</p> <p>﴿اہل بدرا اور اہل حدیبیہ صحابہ ﷺ کے جامع مناقب کا بیان﴾</p>	۱.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٣٨٥	<p><u>١٠ . الْبَابُ الْعَاشِرُ:</u></p> <p>مَنَاقِبُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ ﷺ</p> <p>﴿عَشْرَه مُبَشِّرهٍ صَحَابَه ﷺ كَمَنَاقِبِ﴾</p>	١٠ .
٣٨٧	<p>١ . فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ</p> <p>﴿عَشْرَه مُبَشِّرهٍ صَحَابَه كَرَامٍ ﷺ كَجَامِعِ مَنَاقِبِ کَبَارٍ﴾</p>	١ .
٤٠٧	<p><u>١١ . الْبَابُ الْحَادِي عَشَرُ:</u></p> <p>مَنَاقِبُ الصَّحَابِيَّاتِ رضي الله عنهن</p> <p>﴿صَحَابِيَّاتٍ رضي الله عنهن کے مَنَاقِبِ﴾</p>	١١ .
٤٠٩	<p>١ . فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ الصَّحَابِيَّاتِ رضي الله عنهن</p> <p>﴿صَحَابِيَّاتٍ رضي الله عنهن کے جَامِعِ مَنَاقِبِ کَبَارٍ﴾</p>	١ .

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
	١٢ . الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ:	١٢
٤٢٣	<p>مَنَاقِبُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَقَرَابَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ</p> <p>حضرور ﷺ کے اہل بیت اور قربات داروں علیهم السلام کے مناقب</p>	
٤٢٥	<p>فَصْلُ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ</p> <p>حضرور ﷺ کی اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کا بیان</p>	١.
٤٣١	<p>فَصْلُ فِي حَثِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُبِّهِمْ عَلِيهِمُ السَّلَامُ</p> <p>حضرور ﷺ کا لوگوں کو اپنے اہل بیت سے محبت کی ترغیب دینے کا بیان</p>	٢.
٤٤٢	<p>فَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p> <p>حضرور ﷺ کی ایتاء میں آپ ﷺ کے اہل بیت پر درود بھیجنے کا بیان</p>	٣.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٤٧	<p>فَصْلٌ فِي بِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ</p> <p>وَجَزَائِهِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ</p> <p>﴿حضور ﷺ کا اپنے اہل بیت کو جنت کی بشارت دینے اور ان سے نیکی کرنے والوں کو جزاء دینے کا بیان﴾</p>	٤.
٤٩	<p>فَصْلٌ فِي أَنَّهُمْ أَمَانٌ وَنَجَاهَا لِأَمْمَتِهِ</p> <p>﴿اہل بیت اطہار علیہم السلام کا آپ ﷺ کی امت کے لئے باعثِ امان اور نجات ہونے کا بیان﴾</p>	٥.
٤٥٤	<p>فَصْلٌ فِي تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بُغْضِهِمْ</p> <p>وَعَدَاؤِهِمْ</p> <p>﴿حضور ﷺ کا اپنے اہل بیت سے بغض و عداوت رکھنے سے ڈرانے کا بیان﴾</p>	٦.
٦٠	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْقُرَّاَبَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ</p> <p>﴿اہل بیت اطہار علیہم السلام اور کے جامع مناقب﴾</p>	٧.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
	<u>١٣. الباب الثالث عشر:</u>	
٤٧٣	<p>مَنَاقِبُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهن</p> <p>﴿أَمْحَاتُ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهن کے مناقب﴾</p>	
٤٧٥	<p>١. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضي الله عنها</p> <p>﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مناقب﴾</p>	
٤٩٠	<p>٢. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنہما</p> <p>﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مناقب﴾</p>	
٥١٠	<p>٣. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رضي الله عنہما</p> <p>﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت حفصة رضی اللہ عنہا کے مناقب﴾</p>	
٥١٣	<p>٤. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنہا</p> <p>﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے مناقب﴾</p>	

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٥١٦	فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما ﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها كَمَنَاقِبِ﴾	٥.
٥١٩	فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رضي الله عنها ﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ سَوْدَه رضي الله عنها كَمَنَاقِبِ﴾	٦.
٥٢١	فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها ﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ زَيْنَبَ رضي الله عنها كَمَنَاقِبِ﴾	٧.
٥٢٥	فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها ﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ مَيْمُونَه رضي الله عنها كَمَنَاقِبِ﴾	٨.
٥٢٦	فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها ﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ جُوَيْرِيَه رضي الله عنها كَمَنَاقِبِ﴾	٩.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٥٢٨	<p>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّا بْنِ أَخْطَبَ رضي الله عنها</p> <p>﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَسْرَتْ صَفِيَّةَ رضي الله عنها كَمَنَاقِبِ﴾</p>	١٠.
٥٣١	<p><u>٤. الْبَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ:</u></p> <p>مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ الرَّهْرَاءِ سلام الله عليها</p> <p>﴿سَيِّدَةُ الْمَنَاتِ فَاطِمَةُ الرَّهْرَاءُ سلام الله عليها كَمَنَاقِبِ﴾</p>	
٥٣٣	<p>١. فَصْلٌ فِي كَوْنِ آلِ فَاطِمَةَ سلام الله عليها مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَهْلِ كِسَاءِ</p> <p>﴿سَيِّدَهُ فَاطِمَهُ سلام الله عليها كَهَرَانِيَّهُ كَآلِ بَيْتٍ اورَآلِ كِسَاءِ ہونے کا بیان﴾</p>	
٥٣٧	<p>٢. فَصْلٌ فِي كَوْنِهَا سلام الله عليها بَضْعَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ</p> <p>﴿سَيِّدَهُ فَاطِمَهُ سلام الله عليها کَلَخْتِ جَگِ مَصْطَفِیٰ ﷺ ہونے کا بیان﴾</p>	

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٥٤٣	<p>فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهَا سلام الله عليهما عند النبي ﷺ</p> <p>﴿بَارِكَاهُ رَسَالتُ ﷺ میں سیدہ فاطمہ سلام الله علیہما مقام و مرتبہ﴾</p>	٣.
٥٥٠	<p>فَصْلٌ فِي كَوْنِهَا سلام الله علیہما سَيِّدَةُ نَسَاءِ الْعَالَمِينَ</p> <p>﴿سیدہ فاطمہ سلام الله علیہما کا سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہونے کا بیان﴾</p>	٤.
٥٥٥	<p>فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَاجِهَا سلام الله علیہما</p> <p>﴿سیدہ فاطمہ سلام الله علیہما کی شادی سے متعلقہ امور کا بیان﴾</p>	٥.
٥٦٠	<p>فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهَا سلام الله علیہما يَوْمَ الْقِيَامَةِ</p> <p>﴿روز قیامت سیدہ فاطمہ سلام الله علیہما کا مقام و مرتبہ﴾</p>	٦.
٥٦٥	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ سلام الله علیہما</p> <p>﴿سیدہ فاطمہ سلام الله علیہما کے جامع مناقب کا بیان﴾</p>	٧.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
	١٥ . <u>البَابُ الْخَامِسُ عَشَرَ:</u>	
٥٧٧	<p>مَنَاقِبُ الْحَسَنَيْنِ عليهما السلام</p> <p>حسين کریمین عليهما السلام کے مناقب ﴿</p>	
٥٧٩	<p>١ . فَصْلٌ فِي تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُمَا وَأَذَانِهِ فِي أُذُنِهِمَا وَعَقِيقَتِهِ عَنْهُمَا عليهما السلام</p> <p>حضور ﷺ کا حسین کریمین عليهما السلام کا نام رکھنے، ان کے کانوں میں اذان دینے اور ان کی طرف سے عقیقہ کرنے کا بیان ﴿</p>	
٥٨٤	<p>٢ . فَصْلٌ فِي أَنَّهُمَا عليهما السلام مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَخَيْرُ النَّاسِ نَسَبًا</p> <p>حسین کریمین عليهما السلام کا اہل بیت میں سے ہونے اور نسب کے اعتبار سے تمام لوگوں سے بہتر ہونے کا بیان ﴿</p>	

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٥٩٣	<p>فَصْلٌ فِي كَوْنِ حُبِّهِمَا حُبَّ النَّبِيِّ وَبُغْضِهِمَا بُغْضَ النَّبِيِّ</p> <p>﴿حسين کریمین علیہما السلام سے محبت حضور ﷺ سے محبت اور ان سے بعض حضور ﷺ سے بغض ہونے کا بیان﴾</p>	٣.
٥٩٦	<p>فَصْلٌ فِي مَكَانَتِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ النَّبِيِّ</p> <p>﴿بارگاہ رسالت ﷺ میں حسین کریمین علیہما السلام کا مقام و مرتبہ﴾</p>	٤.
٦٠٦	<p>فَصْلٌ فِي مَنْ أَحَبَّهُمَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ</p> <p>﴿اللہ تعالیٰ کا حسین کریمین سے محبت رکھنے والوں کو جنت اور ان سے بعض رکھنے والوں کو دوڑخ میں داخل کرنے کا بیان﴾</p>	٥.
٦٠٩	<p>فَصْلٌ فِي مَكَانَتِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الْجَنَّةِ</p> <p>﴿حسین کریمین علیہما السلام کا جنت میں مقام و مرتبہ﴾</p>	٦.
٦١٤	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِمَا وَمَنَاقِبِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ</p> <p>﴿حسین کریمین علیہما السلام کی جامع صفات اور مناقب کا بیان﴾</p>	٧.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
	<u>١٦ . الْبَابُ السَّادِسُ عَشَرَ :</u>	١٦
٦٢٣	مَنَاقِبُ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ الْمَهْدِيِّ <small>العَلَيْهِ السَّلَامُ</small> امام محمد مهدی <small>العلیہما السلام</small> کے مناقب	
٦٢٥	فَصْلٌ فِي كَوْنِهِ <small>العَلَيْهِ السَّلَامُ</small> مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ <small>(سیدنا امام مهدی <small>العلیہما السلام</small> کا اہل بیت اطہار علیہم السلام میں سے ہونے کا بیان)</small>	١.
٦٢٨	فَصْلٌ فِي عَلَامَاتِ ظُهُورِ الْمَهْدِيِّ <small>العَلَيْهِ السَّلَامُ</small> <small>(سیدنا امام مهدی <small>العلیہما السلام</small> کے ظہور کی علامات کا بیان)</small>	٢.
٦٣٥	فَصْلٌ فِي أَدَاءِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ صَلَاتُهُ وَرَاءَهُ <small>العَلَيْهِ السَّلَامُ</small> <small>(حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا امام مهدی <small>العلیہما السلام</small> کے پیچھے نماز ادا کرنے کا بیان)</small>	٣.
٦٣٨	فَصْلٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ الْمَهْدِيَّ يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا <small>(سیدنا امام مهدی <small>العلیہما السلام</small> کا زمین کو عدل و النصف سے بھر دینے کا بیان)</small>	٤.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٦٤٣	فَصْلٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ الْمُهَدِّيَّ السَّعِيدَ يَكُونُ خَلِيفَةً اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ﴿سَيِّدُنَا إِمامُ مُهَدِّيٍّ السَّعِيدَ كَعَلَى الْإِطْلَاقِ خَلِيفَةُ اللَّهِ هُوَ نَّا بِيَان﴾	٥.
٦٤٩	فَصْلٌ فِي أَنَّ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ تُنْعَمُ فِي وِلَائِتِهِ نِعْمَةً لَمْ تُنْعَمْهَا قَطُّ ﴿سَيِّدُنَا إِمامُ مُهَدِّيٍّ السَّعِيدَ كَيْ خَلَافَتِ مِنْ أَعْمَتِ مُحَمَّدِيَّةٍ كَوَوْهُ نِعْمَتِ حَاصِلٍ هُوَنَّگِي جَوَاسِ كَبُحِي حَاصِلٍ نَّهْوَنَّگِي هُوَنَّگِي﴾	٦.
٦٥٣	فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ ﴿سَيِّدُنَا إِمامُ مُهَدِّيٍّ السَّعِيدَ كَيْ جَامِعٌ صِفَاتٍ اُورْمَنَاقِبٍ کَبِيَان﴾	٧.
٦٥٩	مَصَادِرُ التَّخْرِيجِ	

الْبَابُ الْأَوَّلُ:



www.MinhajBooks.com



www.MinhajBooks.com

۱. فَصُلُّ فِي كَوْنِ قَرْنِ الصَّحَابَةِ خَيْرُ الْقُرُونِ

صحابہ کرام ﷺ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہونے کا بیان ﴿﴾

۱/۱ عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَّنَاهُمْ: خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، قَالَ عُمَرُ: فَلَا أَدْرِي أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِي فَرِنِينَ أَوْ شَالَاتَ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشَهَّدُونَ وَلَا يُسْتَشَهِّدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيُنَذِّرُونَ وَلَا يُوْفُونَ. يُظَهِّرُ فِيهِمُ السِّمَنُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالطَّحاوِيُّ.

”حضرت عمران بن حسین ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر جوان کے بعد ہوں گے اور پھر جوان کے بعد ہوں گے۔ حضرت عمران ﷺ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر فرمایا تین کا۔ (پھر فرمایا): پھر تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی کہ وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ وہ خیانت کریں گی حالانکہ وہ امین نہیں بنائے جائیں گے۔ وہ نذریں مانیں گے اور ان کو پورا نہیں کریں گے اور ان پر چربی چڑھی ہو گی۔“

اس حدیث کو امام بخاری اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔

۱: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، ١٣٣٥/٣، الرقم: ٣٤٥٠، والطیالسى فى المسند، ١١٣، الرقم: ٨٤، و ابن الجعد فى المسند، ١٩٦/١، الرقم: ١٢٨٩، والطحاوى فى شرح معانى الآثار، ٤/٥١۔

٢/٢ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنُ الَّذِينَ يَلْوُنُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوُنُهُمْ. ثُمَّ يَجْئِي قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس قرن (زمانہ) میں ہیں جو میرے قریب ہے، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں، ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے کسی ایک کی شہادت اس کی قسم پر سابق ہوگی اور اس کی قسم اس کی شہادت پر سابق ہوگی۔“

اس حدیث کو امام مسلم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٣/٣ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ. ثُمَّ الثَّانِي. ثُمَّ الثَّالِثُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سے لوگ بہتر ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے

٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة، ١٩٦٢ / ٤، الرقم: ٢٥٣٣، وابن أبي شيبة في المصنف،

٥: أخرجه مسلم في الصحيح، ٤٠٤، الرقم: ٣٢٤٠، وأبو يعلى في المسند، ٤٠ / ٩، الرقم: ٥١٠٣ -

٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة، ١٩٦٥ / ٤، الرقم: ٢٥٣٦، وأحمد بن حنبل في المسند،

٧: أخرجه مسلم في الصحيح، ٤٠٦، الرقم: ٢٥٢٧٢، وابن أبي شيبة في المصنف ٤٠ / ٦، الرقم:

٨: وابن أبي عاصم في السنّة، ٦٢٩ / ٢، الرقم: ١٤٧٥ - ٣٢٤٠

بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں، میں موجود ہوں اس کے بعد دوسرے زمانے کے اور اس کے بعد تیرے زمانے کے۔“ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٤/٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنُ الْدِينِ بُعِثْتُ، فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا؟ قَالَ: ثُمَّ يَخْلُفُ قُوْمٌ يُحِبُّونَ السِّمَانَةَ. يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهِدُوا.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدٌ.

”حضرت ابو ہریرہ رض بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے بہترین لوگ اس زمانہ کے ہیں جس میں مبعوث ہوا ہوں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں اللہ ہی خوب جاتا ہے کہ آپ نے تیرے زمانے کا ذکر کیا یا انہیں پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو فرزہی کو پسند کریں گے وہ شہادت طلب کئے جانے سے پہلے شہادت دیں گے۔“ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٥/٥. عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنُ الْدِينِ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ

٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة، ٤/١٩٢٣، الرقم: ٢٥٣٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢٢٨/٢، الرقم: ٧١٢٣، والشوكتاني في نيل الأوطار، ٢٠٨/٩۔

٥: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: الفتن، باب: ماجاء في القرن الثالث، ٤/٥٠٠، الرقم: ٢٢٢٢، وأبوداود في السنن، كتاب: السنة، باب: في فضل أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٤/٢١٤، الرقم: ٤٦٥٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٤٤٠، وابن حبان في الصحيح، ١٢٣/١٥، الرقم: ٦٧٢٩۔

أَمْ لَا، ثُمَّ يَنْشَا أَقْوَامٍ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهِدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ، وَيَفْسُو فِيهِمُ السِّمَنُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسْنٌ صَحِيحٌ.

”حضرت عمران بن حسین بن علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں میرے زمانہ بعثت کے لوگ بہتر ہیں پھر ان سے متصل زمانے کے لوگ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ تیسرے زمانے کا ذکر فرمایا یا نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بغیر کہہ شہادت دیں گے امانت میں خیانت کریں گے اور ان میں موٹا پا عام ہوگا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

٦/٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْلَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ بِالْأَهْوَازِ إِذَا بَرَجَلٌ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيِّ عَلَى بَغْلٍ أَوْ بَغْلَةً وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ، قَدْ ذَهَبَ قَرْنِي مِنْ هَذِهِ الْأَمَمَةِ فَأَلْحَقْنِي بِهِمْ فَقَلْتُ: وَأَنَا أَدْخُلُ فِي دَعْوَتِكَ قَالَ: وَصَاحِي هَذَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي مِنْهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الشَّالِثَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، يَهْرِيقُونَ الشَّهَادَةَ وَلَا يَسْأَلُونَهَا. وَإِذَا هُوَ بُرِيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ.

٦: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ٥ / ٣٥٠، الرَّقْمُ: ٢٣٠١٠، وَأَبُو يَعْلَى فِي الْمُسْنَدِ، ١٣ / ٤٦، الرَّقْمُ: ٨٤٢٠، وَالْطِيَالِسِيُّ فِي الْمُسْنَدِ، ١ / ٣٩، الرَّقْمُ: ٢٩٩ -

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَمٍ.

”حضرت عبد اللہ بن مولیؑ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اہواز میں چل رہا تھا تو اچانک اپنے سامنے میں نے ایک آدمی کو خچر پر سوار دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا اے اللہ، میرے زمانے کے لوگ اس امت سے جا چکے ہیں اے اللہ، مجھے ان کے ساتھ ملا دے میں نے کہا: میں بھی تمہاری دعا میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو وہ آدمی کہنے لگا اور میرا یہ دوست بھی (یعنی اس کو بھی ان کے ساتھ ملا دے) اگر یہ اسی طرح کا ارادہ رکھتا ہے وہ کہنے لگا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے زمانہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں: پھر ان لوگوں کا زمانہ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں روایت کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ ایسا فرمایا: یا نہیں پھر ان کے بعد ایسی قوم آئے گی جن میں سے موٹا پا بہت زیادہ پایا جائے گا وہ شہادت کے لئے خون بھائیں گے لیکن اس کا سوال نہیں کریں گے پھر میں نے دیکھا (ایسا کہنے والے) بریدہ اسمیؑ تھے۔“

اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلیؑ نے روایت کیا ہے۔

٧/٧. عَنْ بُنْتِ أَبِي جَهْلٍ قَالَتْ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى
فَقُمْتُ إِلَى كُوزٍ فَسَقَيْتُهُ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثُوبَانٌ أَخْضَرَانٌ فَقَالَ: تَعْبُدُ
اللهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ:
خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنَيِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُمْ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

٧: آخر جه الطبراني في المعجم الكبير، ٢٤، رقم: ٢٥٨، والشبياني في الأحاديث المثنوي، ٥/٧٣، رقم: ٣١٦٩، والعسقلاني في الإصابة، ٧/٥٥٩، رقم: ١٠٩٧٤۔

”بنت ابی جہل سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس سے گزرے اور پینے کے لئے پانی طلب کیا پس میں آپ ﷺ کے لئے ایک پیالے میں پانی لے کر آئی اتنے میں ایک آدمی جس نے دوسرا نگ کے کپڑے پہنے تھے آپ ﷺ سے کچھ پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراو اور نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ ﷺ نے فرمایا: امت میں سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر وہ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۸/۸. عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرٌ أَمْتِي قَرْنُ الَّذِينَ بَعِثْتُ، فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت سمرہ بن جندب ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے بہترین زمانہ وہ ہے جس زمانہ میں، میں ان کی طرف مبعوث ہوا پھر ان کا جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پھر ان کا جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۹/۹. عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرٌ قَرْنٌ

:۸ آخرجه الطبرانی فی المعجم الصغیر، ۱/۷۶، الرقم: ۹۶، والهیشمی فی مجمع الزوائد، ۱۰/۱۹۔

:۹ آخرجه الطبرانی فی المعجم الأوسط، ۳: ۳۲۹، ۳۴۲۵، الرقم: ۳۵۲، وأبونعیم فی حلیة الأولیاء، ۱/۲۲۰، ۱/۳۵۲، والهیشمی فی مجمع الزوائد، ۱۰/۱۹۔

الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِيُّ، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ، فَلَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا۔ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ۔

”حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بہترین زمانہ وہ ہے جس میں، میں موجود ہوں پھر دوسرا پھر تیرا پھر چوتھا پس اللہ تعالیٰ ان کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرے گا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔



www.MinhajBooks.com

٢. فَصُلُّ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ رَآنِي

﴿ حضور ﷺ کی زیارت کرنے والے مومنین کے لئے خوش خبری کا

بيان

١٠/١٠. عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَمْسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِي . رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

”حضرت جابر رض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے (یعنی میرے صحابی) کو دیکھا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔

١١/١١. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي . رَوَاهُ أَبْنُ حِبَّانَ .

”حضرت ابوسعید خدری رض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لئے خوشخبری ہے اور اس کے لئے دوبار خوشخبری ہے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لایا۔“

١٠: أَخْرَجَهُ التَّرمِذِيُّ فِي السِّنْنَ، كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابٌ: مَاجَاءَ فِي فَضْلِ مِنْ

رَأْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ٥/٦٩٤، الرَّقم: ٣٨٥٨ -

١١: أَخْرَجَهُ أَبْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيفَةِ، ٢١٣/١٦، الرَّقم: ٧٢٣ -

اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

١٢/١٢ . عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَرَأْلُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيْكُمْ مَنْ رَأَنِي وَصَاحَبَنِي، وَاللَّهُ، لَا تَرَأْلُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيْكُمْ مَنْ رَأَى مِنْ رَأَنِي وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت واثله بن اسقع ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: خدا کی قسم تم اس وقت تک خیر میں رہو گے جب تک تم میں وہ باقی ہے جس نے مجھے (حالت ایمان میں) دیکھا اور میری صحبت اختیار کی (پھر فرمایا) خدا کی قسم تم اس وقت تک خیر میں رہو گے جب تک تم میں وہ باقی ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اور اس کی صحبت اختیار کیا جس نے میری صحبت اختیار کیا۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

١٣/١٣ . عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهْنَيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ رَأْكَبَانِ فَلَمَّا رَأَهُمَا قَالَ: كِنْدِيَانِ مُذْحِجَيَّانِ، حَتَّىٰ أَتِيَاهُ فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مُذْحِجٍ قَالَ: فَدَنَا إِلَيْهِ ﷺ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ وَآمَنَ بِكَ وَاتَّبَعَكَ وَصَدَقَكَ مَاذَا لَهُ قَالَ: طُوبَى لَهُ . قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرُ حَتَّىٰ أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنَ

- ١٢: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٤٠٥، الرقم: ٣٢٤١٧

- ١٣: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٤/١٥٢، والطبراني في المعجم

الكبير، ٢٢/٢٨٩، الرقم: ٧٤٢

بِكَ، وَاتَّبَعَكَ، وَصَدَّقَكَ، وَلَمْ يَرَكَ، مَاذَا لَهُ قَالَ: طُوبَى لَهُ، ثُمَّ طُوبَى لَهُ قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت عبد الرحمن رحمه الله فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اس دوران دو گھوڑ سوار نمودار ہوئے پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا: دو کندی مذچی ہیں یہاں تک کہ جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ مذچ سے آئے تھے راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر سکے پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ آدمی کہنے لگا: یا رسول اللہ! آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لئے مبارکباد ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا پھر وہ آدمی چلا گیا اور دوسرا آدمی آگے بڑھا یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تاکہ اس کی بیعت کر سکیں تو وہ آدمی عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تصدیق کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے دو دفعہ مبارکباد ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا پھر وہ آدمی وہاں سے چل دیا۔“

اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

١٤/١٤. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلصَّحَابَةِ وَلِمَنْ رَأَى مِنْ رَأْنِي قَالَ: قُلْتُ: وَمَا قَوْلُهُ وَلِمَنْ رَأَى قَالَ مَنْ

١٤: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٦/٦٦، الرقم: ٥٨٧٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٣/٢٥٤۔

رَأَى مَنْ رَآهُمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ.

”حضرت سہل بن سعد رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے اللہ! میرے صحابہ کو بخش دے اور اسے بھی بخش دے جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ”ولمن رائی“ (اور جس نے مجھے دیکھا) سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے انہیں (صحابہ کو) دیکھا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔



www.MinhajBooks.com

۳. فَصْلٌ فِي أَنَّ الصَّحَابَةَ أَمْنَةٌ لَا مَتِيهٌ

صحابہ کرام ﷺ کا آپ ﷺ کی امت کے لئے سبب امان

ہونے کا بیان

۱۵/۱۵ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ. قَالَ: فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ هَهُنَا؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: النَّجُومُ أَمْنَةٌ لِلسمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمْنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمْنَةٌ لَا مَتِيهٌ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدٌ.

”حضرت ابو بردہ ﷺ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم یہیں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ

۱۵: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيفَةِ، كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ: بَيَانُ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ أَمَانٌ لِأَصْحَابِهِ وَبَقَاءً أَصْحَابَهُ أَمَانٌ لِلأُمَّةِ، ١٩٦١/٤، الرَّقمُ : ٢٥٣١، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ٣٩٨/٤، وَأَبُو يَعْلَى فِي الْمُسْنَدِ، - ٧٢٧٦، الرَّقمُ: ٢٦٠/١٣

عشاء بھی آپ کے ساتھ پڑھیں (تو یہ بہتر ہو گا) وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہے پھر آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور آپ ﷺ نے فرمایا: تم یہاں سے گئے نہیں تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم یہیں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھیں تو بہت اچھا ہو گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے بہت اچھا کیا یا فرمایا: ٹھیک کیا۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا اور آپ ﷺ اکثر چہرہ اقدس آسان کی طرف اٹھاتے تھے پھر فرمایا: آسانے آسان کے لئے بچاؤ ہیں اور جب تارے ختم ہو جائیں گے تو جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ (یعنی قیامت) آسان پر آجائے گی اور میں اپنے صحابہ کے لئے ڈھال ہوں اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر بھی وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہے اور میرے صحابہ میری امت کے لیے بچاؤ ہیں اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔“
اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔

١٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرْيَدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا بُعْثَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ。 رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ。

”حضرت ابو بردیدہؓ سے مردی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ میں سے جو صحابی کسی زمین پر فوت ہو گا تو قیامت کے دن ان کے لئے نور اور رہنمابن کراٹھے گا۔“ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

١٧. عَنْ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا

١٦: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب: المناقب، باب: فيمن سبّ أصحاب النبي ﷺ، ٦٩٧/٥، الرقم: ٣٨٦٥۔

١٧: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١/٨٩، الرقم: ٦٧٥، وعبد بن حميد في المسند، ١/٥٢، الرقم: ٦٩۔

**تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلْتَمِسَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي كَمَا تُلْتَمِسُ أُوْتُبُغَى
الصَّالَةُ فَلَا تُوجَدُ رَوَاهُ أَحْمَدُ.**

”حضرت علی بن ابی طالب ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے صحابہ ﷺ میں سے کسی آدمی کو اس طرح ڈھونڈا جائے گا جس طرح لکشیدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی۔“ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

**١٨/١٨ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَيِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي أَمْنَةٌ لَأُمْتَيْ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمْتَيْ مَا يُوْعَدُونَ.
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.**

”حضرت ابو بردہ رض اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ میری امت کے لئے بچاؤ کا ذریعہ ہیں اور جب میرے صحابہ چلے جائیں تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔“ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

**١٩/١٩ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثُلُّ أَصْحَابِي
مَثُلُّ النَّجُومِ يُهُتَدِي بِهَا فَإِنَّهُمْ أَخَدُّهُمْ بِقُولِهِ اهْتَدَيْتُمُ . رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.**

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ جن سے راستے کی تلاش

- ١٨: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٤/٤٠٦، الرقم: ٣٢٤٠٦.

- ١٩: أخرجه عبد بن حميد في المسند، ١/٢٥٠، الرقم: ٧٨٣.

کی جاتی ہے پس تم میرے صحابہ ﷺ میں سے جس کے قول کو بھی پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“ اس حدیث کو امام عبد بن حمید نے روایت کیا ہے۔

۲۰۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَأَلْتُ رَبِّي فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي، فَأَوْحَى إِلَيْيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ بَعْضُهَا أَضْوَءُ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ أَخْذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

”حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے نا آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا تو مجھ پر وحی کی گئی: اے محمد! آپ کے اصحاب میرے نزدیک ستاروں کی طرح ہیں۔ بعض بعض سے قوت میں افضل ہیں اور ہر ایک کو روشی حاصل ہے پس جس نے ان کے اختلاف میں سے جس پر وہ ہیں کچھ لے لیا پس وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔“ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

٤. فَصْلٌ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى أَصْحَابِهِ

﴿حضور ﷺ کا اپنے صحابہ ﷺ کی محافظت کا حکم دینے کا بیان﴾

٢١/٢١ عن جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَّةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيْكُمْ، فَقَالَ: احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَقُسُّوُ الْكَذِبُ، حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشَهِدُ وَيَحْلِفُ وَمَا يُسْتَحْلِفُ.

رواء ابن ماجه.

”حضرت جابر بن سمرة ﷺ سے روایت ہے کہ جابیہ کے مقام پر حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے تھے جیسے میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں اور فرمایا: میرے صحابہ کا خیال رکھنا اور پھر جوان کے بعد لوگ ہوں گے۔ ان کا اور پھر جوان کے بعد ہوں گے۔ پھر جھوٹ عام ہو جائے گا حتیٰ کہ ایک شخص خود بخود گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی نہیں لی جائے گی اور وہ قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔“ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٢٢/٢٢ عن الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: أَتُمْ

٢١: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، كتاب: الأحكام، باب: كراهة شهادة، ٢٩١/٢، الرقم: ٢٣٦٣، والمقدس في الأحاديث المختارة،

- ٩٨، الرقم: ١٩٣/١

٢٢: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٤٠/٦، الرقم: ٣٢٤٠٥، وأحمد بن -

فِي النَّاسِ كَالْمُلْحُ فِي الطَّعَامِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ: وَلَا يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمُلْحِ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ: كَيْفَ يَقُولُ ذَهَبَ مِلْحُهُمْ.
رواه ابن أبي شيبة وأحمد.

”حضرت حسن رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا: تم لوگوں میں ایسے ہو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حسن رض نے کہا کہ نمک کے بغیر کھانا اچھا نہیں ہوتا پھر حضرت حسن رض نے کہا: اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کا نمک ہی چلا گیا۔“
اس حدیث کو امام ابن ابی شيبة اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٢٣/٢٣ عن جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: حَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَّةِ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَقَالَ: أَلَا أَحْسِنُوا إِلَيْ أَصْحَابِيِّ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ الحديث. روہ ابن حبان والحاکم والطبرانی.

”حضرت جابر بن سمرة رض سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رض نے جابیہ کے مقام پر ہم سے خطاب کیا اور فرمایا کہ آج کے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: خباردار! میرے صحابہ سے اچھا سلوک کرنا اور پھر جوان کے بعد آئیں گے..... آگے طویل حدیث ہے۔“

----- حنبيل فی فضائل الصحابة، ۱/۵۹، الرقم: ۱۷، وابن المبارك فی الزهد، ۱/۵۷۲، الرقم: ۲۰۰.

٢٣: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ۱/۱۰، الرقم: ۴۳۶، والحاکم في المستدرک، ۱/۱۹۸، الرقم: ۳۸۸، والطبرانی في المعجم الأوسط، ۳/۲۰۴، الرقم: ۲۹۲۹، وفي المعجم الصغير، ۱/۵۸، الرقم: ۴۵۷۶.

اس حدیث کو امام ابن حبان، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٢٤/٢٤. عنْ قَبِيْصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِبَابِ الْجَابِيَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي أَصْحَابِيِّ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوُنُهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوُنُهُمْ، ثُمَّ اتَّقُوا الْكَذِبَ وَشَهَادَاتِ الزُّورِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت قبیصہ بن جابرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے جابیہ کے دروازے پر ہمیں خطاب کیا۔ اور کہا ہے شک رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا پھر جوان کے بعد ہوں گے اور پھر جوان کے بعد ہوں گے پھر جھوٹ اور جھوٹی شہادتوں سے بچنا۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٢٥/٢٥. عنْ عُمَرَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِيِّ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوُنُهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوُنُهُمْ، مَنْ أَحَبَّ بَحْبُوْحَةَ الْجَحَدِ فَلِيُنْزِمْ الْجَمَاعَةَ، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتْهُ وَسَأَتْهُ سَيِّئَتْهُ فَهُوَ مَؤْمِنٌ.

رواهہ البزار وابن ابی عاصم۔

”حضرت عمرؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ کے ساتھ بھلانی کرو پھر جوان کے بعد ہوں گے اور پھر جوان کے بعد ہوں

٢٤: أخرجه ابن أبی شیبہ فی المصنف، ٤٠٤/٦، الرقم: ٢٣٤١٢۔

٢٥: أخرجه البزار فی المسند، ٢٦٩/١، الرقم: ١٦٦، وابن أبی عاصم فی السنۃ، ٦٣١/٢، الرقم: ١٤٨٩۔

گے اور جو جنت کے وسط میں گھر بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے اور جس کو اس کی نیکی خوشی میں ڈال دے اور برائی اس کو پریشانی میں بٹلا کر دے وہ حقیقی مومن ہے۔“ اس حدیث کو امام بزار اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔

۲۶/۲۶. عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقُدْرُ فَأَمْسِكُوا.
رواہ الطبرانی.

”حضرت ثوبان ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور جب قدر کا ذکر کیا جائے تو بھی خاموش ہو جاؤ۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۲۷/۲۷. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَالإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ. رَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ.

وفي روایة: عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، فَإِنَّهُمْ خِيَارٌ أُمَّتِي. رَوَاهُ الْقُضَاعِي.

”حضرت قادة ﷺ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ کرام ہستے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اور ایمان ان

۲۶: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۹۶/۲، الرقم: ۱۴۲۷۔

۲۷: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ۳۱۱/۱، والقضاعي في مسنـد الشهـاب، ۱/۴۱۸، الرـقم: ۷۲۰۔

کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔“

اس حدیث کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔

”اور ایک روایت میں حضرت عمر رض سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔“ اس حدیث کو امام قضاۓ نے روایت کیا ہے۔



www.MinhajBooks.com

۵. فَصْلٌ فِي التَّوَسُّلِ بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَتْحِ

﴿ صحابہ کرام ﴿ کے توسل سے حصول فتح کا بیان ﴾

۲۸/۲۸ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمانٌ فيغزو فئامٌ من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمانٌ فيغزو فئامٌ من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمانٌ فيغزو فئامٌ من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم. متفق عليه.

”حضرت ابوسعید خدری ﴿ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کرے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہا ہو؟ پس وہ لوگ کہیں گے ہاں تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کرے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم

۲۸: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، ١٣٣٥ / ٣، الرقم: ٣٤٤٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ٢٥٣٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ٧ / ٣، الرقم: ١٩٦٢ / ٤، وابن حبان في الصحيح، ٨٦ / ١١، الرقم: ٤٧٦٨ - ١٠٥٦

میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی صحبت پائی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں تو پھر انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک کثیر جماعت جہاد کرے گی تو ان سے پوچھا جائے گا: کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی صحبت پانے والوں کی صحبت پائی ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں تو انہیں فتح دے دی جائے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٩/٢٩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ فَيُقَالُ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ صَاحِبَ الرَّسُولَ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ صَاحِبَ الرَّسُولَ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ.

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ جنگ کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت پائی ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر وہ جہاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی صحبت اختیار کر رکھی ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔“ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

٣٠/٣٠. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

٢٩: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ١٣١٦/٣، الرقم: ٣٣٩٩ -

٣٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوونهم ، ٤/١٩٦٢، الرقم: ٢٥٣٢، وأبويعلى في المسند، ٢٦٣/٢، الرقم: ٩٧٣ -

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُعَثِّرُ مِنْهُمُ الْبُعْثَ فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجْلُونَ
 فِيْكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ
 يُعَثِّرُ الْبُعْثَ الثَّانِي فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟
 فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُعَثِّرُ الْبُعْثَ الثَّالِثُ، فَيَقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ
 مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ ثُمَّ يَكُونُ الْبُعْثُ الرَّابِعُ فَيَقَالُ: انْظُرُوا
 هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟
 فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

”حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ ایک شکر کو جنگ کے لئے روانہ کریں گے،
 لوگ کہیں گے دیکھو ان میں حضور نبی اکرم ﷺ کا کوئی صحابی ہے؟ پھر ایک شخص مل جائے
 گا اور ان کو اس کی برکت سے فتح حاصل ہو جائے گی، پھر ایک دوسرا شکر روانہ کیا جائے گا
 لوگ کہیں گے: کیا ان کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور نبی اکرم ﷺ کے اصحاب کو دیکھا
 ہو؟ پھر اس کی برکت سے ان کو فتح حاصل ہو جائے گی پھر ایک تیسرا شکر روانہ کیا جائے گا
 اور یہ کہا جائے گا دیکھو کیا ان میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور نبی اکرم ﷺ کے
 اصحاب کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو پھر ایک چوتھا شکر روانہ کیا جائے گا پھر کہا جائے گا دیکھو
 ان میں سے کوئی ایسا شخص دیکھتے ہوں جس نے حضور نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کے دیکھنے
 والوں میں سے کسی ایک شخص کو دیکھا ہو پھر ایک شخص مل جائے گا اور اس کی برکت سے فتح
 حاصل ہو جائے گی۔“ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

٣١/٣١ عن جابرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثُمَّ لَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْرُجُ الْجَيْشُ مِنْ جُيُوشِهِمْ فَيُقَالُ: هَلْ أَحَدٌ صَاحِبٌ مُحَمَّداً فَتَسْتَصْرُونَ بِهِ فَتَتَصْرُو؟ ثُمَّ يُقَالُ: مَنْ صَاحِبٌ مُحَمَّداً؟ فَيُقَالُ: لَا. فَمَنْ صَاحِبٌ أَصْحَابَهُ؟ فَيُقَالُ: لَا فَيُقَالُ: مَنْ رَأَى مِنْ صَاحِبِ أَصْحَابَهُ؟ فَلَوْ أُسْمِعُوا بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتَوْهُ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَمٍ.

”حضرت جابر رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسالم نے فرمایا: ضرور بالضروروگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے شکروں میں سے ایک شکر جہاد کے لئے نکلے گا پس کہا جائے گا کہ کیا کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسالم کا صحابی ہے؟ جس کے ذریعے تم نصرت طلب کرو تو فتح یاب ہو جاؤ پھر کہا جائے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسالم کا صحابی کون ہے؟ کہا جائے گا کوئی نہیں۔ پھر کہا جائے گا کوئی تابعی ہے؟ کہا جائے گا کوئی نہیں پھر کہا جائے گا کوئی تبع تابعی ہے؟ کہا جائے گا کوئی نہیں اور اگر وہ اس کے متعلق سمندر کے اس پار سے اس کے بارے میں سنتے تو ضرور اس کے پاس آ جاتے۔“

اسے امام ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔

٦. فَصْلٌ فِي تَحْرِيمِ سَبِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

﴿صَاحِبَةُ كَرَامٍ ﷺ كُوْبَرَا بَهْلَاءَ كَمْنَةَ كِمَانَعَتْ﴾

٣٢/٣٢. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحْدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاؤُدَّ.

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

”حضرت ابوسعید خدری رض سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کو برامت کہو پس اگر تم میں سے کوئی احمد پیہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کروے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔“

اسے امام بخاری، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔

٣٣/٣٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَسْبُوا

٣٢: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لو كنت متخدنا خليلًا، ١٣٤٣/٣، الرقم: ٣٤٧٠، والترمذی في السنن، كتاب: المناقب، باب: (٥٩)، ٦٩٥/٥، الرقم: ٣٨٦١، وأبو داؤد في السنن، كتاب: السنة، باب: في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ٤٦٥٨، الرقم: ٤٢١٤/٤

٣٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: تحريم سبّ -

أَصْحَابِي لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي، فَوَاللَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدًا كُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

”حضرت ابو هریرہ رض سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کو برا ملت کہو، میرے صحابہ کو برا ملت کہو پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی احمد پھرڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھریا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔“
اس حدیث کو امام مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٣٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْفَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَخَذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبَحِبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِيُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُؤْشِكُ أَنْ يَأْخُذُهُ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ۔

الصحابۃ، ۱۹۶۷/۴، الرقم: ۲۵۴۰، وابن ماجہ فی السنن، المقدمة،

باب: فضل أهل بدرا، ۱/۵۷، الرقم: ۱۶۱، والنمسائی فی السنن الکبری، ۵/۸۴، الرقم: ۸۳۰۸، وابن حبان فی الصحيح، ۱۶/۲۳۸، الرقم:

-۷۲۰۳-

٣٤: أخرجه الترمذی فی السنن، کتاب: المناقب، باب: فی من سبّ أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۵/۶۹۶، الرقم: ۳۸۶۲، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۴/۸۷، والرویانی فی المسند ۲/۹۲، الرقم: ۸۸۲، والدیلمی فی مسند الفردوس، ۱/۱۴۷، الرقم: ۵۲۵۔

”حضرت عبد اللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ کرامؓ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنا کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی عنقریب اس کی گرفت ہوئی۔“ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٣٥. عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسْبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہوتھا رے شر کی وجہ سے۔“ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

٣٦. عَنْ نُسِيرِ بْنِ ذَعْلُوقٍ قَالَ: كَانَ أَبْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا تَسْبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ أَحَدُهُمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ

٤٥: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب: المناقب، باب: ما جاء في فضل من رأى النبي ﷺ، ٦٩٧/٥، الرقم: ٣٨٦، والطبراني في المعجم الأوسط، ١٩١/٨، الرقم: ٨٣٦٦، والدليلى في مسنـد الفردوس، ٢٦٣/١، الرقم:

- ١٠٢٢ -

٤٦: أخرجه ابن ماجه في السنن، باب: فضل أهل بدر، ١٦٢، الرقم: ٥٧/١، وابن أبي شيبة، في المصنف، ٤٠٥/٦، الرقم: ٣٢٤١٥، وابن أبي عاصم في السنة، ٤٨٤/٢، الرقم: ١٠٠٦ -

أَحِدِهِمْ عُمْرَهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

”حضرت نسیر بن ذعلوق رض روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اصحاب رسول ﷺ کو برا مت کہو پس ان کے عمل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔“

اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور ابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
يَخْطُبُ فَقَالَ: أَكْرِمُوا أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوُنُهُمْ، ثُمَّ
يَظْهُرُ الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلِفَ، وَيَشْهُدُ قَبْلَ أَنْ
يُسْتَشْهَدَ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ بَحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلَيَزِمْ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِنْسِينِ أَعْدُ وَلَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِإِمْرَأَةٍ فَإِنَّ
ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتْهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتْهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ .

رواهة المسائي والطبراني.

”حضرت عمر بن خطاب رض سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے سنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کی عزت کرو پھر ان کی جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پھر ان کی جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر جھوٹ ظاہر ہوگا یہاں تک کہ آدمی قسم طلب کیے جانے سے پہلے قسم اٹھا لے گا اور شہادت طلب کیے جانے سے پہلے شہادت دے دے گا پس جو جنت کی وسعت کا طالب ہے تو اس پر

٣٧: أخرجه المسائي في السنن الكبرى، ٥/٣٨٧، الرقم: ٩٢٢٢، والطبراني
في المعجم الأوسط، ٣/٤٢٠، الرقم: ٢٩٢٩، والطحاوي في شرح
معانى الآثار، ١/٥٠، والطیالسى في المسند، ١/٧، الرقم: ٣١ -

لازم ہے جماعت کو لازم پکڑے اور جدائی اور تفرقہ سے بچو بے شک شیطان ایک کے ساتھ ہے اور وہ دو سے بہت دور ہے اور کوئی آدمی ہرگز کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے کیونکہ ان میں شیطان ہے اور جس کو اس کی نیکی خوش اور برائی پریشان کرے تو وہی مومن ہے۔“ اس حدیث کو امام نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٣٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ، وَإِنَّ أَصْحَابِي يَقْلُونَ، فَلَا تُسْبِّهُمْ، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَمٍ.

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک لوگ کثیر تعداد میں ہیں اور میرے صحابہ قلیل ہیں۔ پس میرے صحابہ کو برا بھلامت کہو اور جس نے ان کو برا بھلام کہا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔“ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔

٣٩. عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِي: بْنَ أَبِي رِبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَافِظًا وَمَنْ سَبَ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

”حضرت عطا بن ابو رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت اور عزت کی تو قیامت کے دن میں اس کا

٤٨: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٢، الرقم: ١٢٠٣، وأبويعلى في المسند، ٤/١٣٣، الرقم: ٢١٨٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٣/٣٥٠، والديلمي في مسنـد الفردوس، ٤/٣٠١، الرقم: ٦٨٨٤۔

٤٩: أخرجه أـحمد بن حنـيل في المسـند، ١/٤٥، الرقم: ١٠۔

محفظ ہوں گا اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت ہو، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔

٤٠ . عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزْرَاءً وَأَصْهَارًا وَأَنْصَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يَقْبِلُ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا۔ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِلَيْهِ اسْنَادٌ.

”حضرت عویم بن ساعدہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بِشَكِ اللَّهِ تَعَالَى نَعْمَلُ بِمَحْيَى (اپنا پسندیدہ رسول) اختیار کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا پس اس نے میرے لئے ان میں سے وزراء بنائے اور قریبی رشته دار اور انصار (مدگار) پس جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی ہیر پھیر یا دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔“

اس حدیث کو امام حاکم، طبرانی اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الإسناد ہے۔

٤٠: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣، ٧٣٢/٣، الرقم: ٦٦٥٦، والطبراني في المعجم الأوسط، ١٤٤/١، الرقم: ٤٥٦، وابن أبي عاصم في السنّة، ٤٨٣/٢، الرقم: ١٠٠٠، والشيباني في الأحاديث المثانى، ٣/٣٧٠، الرقم:

- ۱۷۷۲ -

٤١/ عن ابن عباسٍ عن النبيِ ﷺ لَا تَذَكُّرُوا مَسَاوِي أَصْحَابِي فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ عَلَيْهِمْ، وَادْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي حَتَّى تَأْتِلِفَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُكُمْ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

”حضرت عبد الله بن عباس رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کی برا بیان نہ کرو کہ ان کے لئے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اور میرے صحابہ کے محاسن اور اچھائیاں یاد کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لئے آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔“ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔



www.MinhajBooks.com

- ٤١: أخرجه الديلمي في مسنن الفردوس، ٣١ / ٥، الرقم: ٧٣٦٢ -

٧. فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صحابہ کرام ﷺ کے جامع مناقب کا بیان ﴿﴾

٤٢/ عن أبي هريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَاءَ هُوَ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيرُ فَتَحرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِهْدَا، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نِي أُوْصِدِيقُ أَوْ شَهِيدُ.

رواہ مسلم و الترمذی، و قال: هذا حديث صحيح.

”حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا حرا پھاڑ پر تشریف فرماتھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیرؓ تھے اتنے میں پھاڑ لرزائ ہو گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اور پرنی، صدقیق اور شہید کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

٤٣/ عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة: أي

٤٢: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير، ٤/١٨٨٠، الرقم: ٢٤١٧، والترمذی في السنن، كتاب: المناقب، باب: في مناقب عثمان بن عفان، ٥/٦٢٤، الرقم: ٣٦٩٦ والنمسائي في السنن الكبرى، ٥٩/٥، الرقم: ٨٢٠٧، وابن حبان في الصحيح، ٤١/١٥، الرقم: ٦٩٨٣۔

٤٣: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي بكر۔

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَتَّعْنَاهُمْ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَتَّعْنَاهُمْ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ: ثُمَّ أَبُو عُيَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاحَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: فَسَكَتَتْ. رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَأَحْمَدُ.

”حضرت عبد الله بن شقيق^{رضي الله عنه} سے روایت ہے کہ انہوں نے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: حضور نبی اکرم^{صلی اللہ علیہ وسلم} کے ہاں آپ کے صحابہ کرام^{رض} میں سے کون سب سے زیادہ محبوب تھے؟ اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا: حضرت ابو بکر صدیق^{رض}۔ میں نے عرض کیا: پھر کون زیادہ محبوب تھے؟ آپ نے فرمایا: حضرت عمر^{رض}۔ میں نے عرض کیا: پھر کون زیادہ محبوب تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: حضرت ابو عییدہ بن جراح^{رض}۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٤٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ مَتَّعْنَاهُمْ، خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ،

----- الصدیق^{رض}، ٦/٣٩، الرقم: ٣٦٥٧، وابن ماجہ فی السنن، المقدمة،

باب: فضل عمر^{رض}، ١/٣٨، الرقم: ١٠٢، وأحمد بن حنبل فی المسند ،

----- ٦/٢١٨، الرقم: ٢٥٨٧١ -

٤٤: أخرجه أحمد بن حنبل فی المسند، ١/٣٧٩، الرقم: ٣٦٠٠، والزار فی المسند، ٥/٢١٢، الرقم: ١٨١٦، ١٨٢٠، ١٧٠٢، والطبراني فی المعجم الأوسط، ٤/٥٨، الرقم: ٣٦٠٢، وفي المعجم الكبير، ٩/١١٢، ٩/١١٥، وفي المجمع^{رض}، ١/٣٢٢، والسيھقی فی الاعتقاد، ١/٨٥٨٢، ٨٥٩٣، والھیشمی فی مجموع الزوائد، ١/١٧٧، ٨/٢١٢۔

فَابْتَعَثَهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرًا قُلُوبَ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ (وفي رواية: فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ) فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَزَارُ وَالطَّبرَانِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ.

”حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر قلب پایا تو اسے اپنے لئے چن لیا (اور خاص کر لیا) اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو (صرف اپنے لئے) منتخب کرنے کے بعد دوبارہ قوب انسانی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا انہیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنادیا وہ ان کے دین کے لئے جہاد کرتے ہیں (اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مدگار بنادیا) پس جس شے کو مسلمان اچھا جانیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک (بھی) اچھی اور جسے رُسَّبھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رُمی ہے۔“ اسے امام احمد، بزار، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

٤٥. عَنْ أَبْنِ عَيَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَالْعَمَلُ بِهِ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ إِنْ لَمْ

٤٥: أخرجه البیهقی فی المدخل إلی السنن الکبری، ١٦٢/١، الرقم: ١٥٢
وعبد بن حميد نحوه فی المسند، ١/٢٥٠، الرقم: ٧٨٣، والقضاعی فی
مسند الشهاب، ٢/٢٧٥، الرقم: ١٣٤٦، والدیلمی فی مسند الفردوس،
٤/١٦٠، الرقم: ٦٤٩٧، والذھبی فی میزان الاعتداL، ٢/٤٢، ٨/٢٣۔

يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَسْنَةً مِنِي مَا ضِيَّةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنْتِي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي
إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَإِيمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدِيْتُمْ
وَأَخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب بھی تمہیں کتاب اللہ کا حکم دیا جائے تو اس پر عمل لازم ہے، اس پر عمل نہ کرنے پر کسی کا عذر قبل قول نہیں، اگر وہ (مسئلہ) کتاب اللہ میں نہ ہو تو میری سنت میں اسے تلاش کرو جو تم میں موجود ہو اور اگر میری سنت سے بھی نہ ہو تو (اس مسئلہ کا حل) میرے صحابہ کے اقوال کے مطابق (تلاش) کرو فرمایا: میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے آسمان پر ستارے، ان میں سے جس کا دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے اور میرے صحابہ کا اختلاف (بھی) تمہارے لئے رحمت ہے۔“ اسے امام تیہقی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذَعْلُوقٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا ٤٦ / ٤٦.

وَفِي لِسَانِ الْمِيزَانِ، ١٣٧، ١١٨ / ٢، الرَّقم: ٥٩٤، والخطيب بِغَدَادِي فِي الكفاية فِي عِلْمِ الرَّوَايَةِ، ٤٨١ / ٤، وابنِ كَثِيرٍ فِي تحْفَةِ الطَّالِبِ، ٤٥١ / ١، الرَّقم: ٣٤١، وابنِ الْمَلْقَنِ فِي خلاصَةِ الْبَدْرِ الْمَنِيرِ، ٤٣١ / ٢، الرَّقم: ٢٨٦٨، وابنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمَهِيدِ، ٢٦٣ / ٤، وَالْعَسْقَلَانِي فِي فَحْشِ الْبَارِيِّ، ٤ / ٥٧، وابنِ قَدَامَةَ فِي الْمَعْنَىِ، ٢١٠٩ / ٣، وَأَمْدَى فِي الْإِحْكَامِ، ٢٩٠ / ١، وابنِ حَزْمِ فِي الْإِحْكَامِ، ٦١ / ٥ -

٤٦: أَخْرَجَهُ ابْنُ ماجِهِ فِي السَّنَنِ، الْمَقْدِمَةُ، بَابُ: فَضْلُ أَهْلِ الْبَدْرِ، ١ / ٥٧، الرَّقم: ١٦٢، وابنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَصْنَفِ، ٦ / ٤٠٥، الرَّقم: ٣٢٤١٥، وابنِ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ السَّنَةِ، ٢ / ٤٨٤، الرَّقم: ١٠٠٦، وَالْكَنَانِي فِي مَصْبَاحِ الزَّجَاجَةِ، ١ / ٢٤، الرَّقم: ٥٩ -

تَسْبِّهَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ طَلِيلُهُمْ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ
أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

”نسیر بن ذعلوق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا
کرتے تھے: حضور نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام کو برا مت کہو، کیونکہ ان کا حضور نبی
اکرم ﷺ کی صحبت میں گزر ہوا ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کے (اعمال) سے بہتر ہے،“
اسے امام ابن ماجہ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٤٧/٤٧ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
بَيْتِ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ
وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَنْهَضُ كُلُّ رَجُلٍ إِلَى كَفْئِهِ . وَنَهَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
عُثْمَانَ، فَأَعْتَنَقَهُ قَالَ: أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ وَلِيٌّ فِي الْآخِرَةِ .
رواهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو يَعْلَى، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِلَيْهِ مُنْسَدِدٌ .

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم حضور نبی
اکرم ﷺ کے ساتھ مہاجرین کے ایک گروہ میں ایک گھر میں تھے اور اس گروہ میں حضرت
ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زیر، حضرت عبد الرحمن بن
عوف اور حضرت سعد بن ابی وقار میں سے بھی تھے تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر آدمی

٤٧: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٤/٣، رقم: ٤٥٣٦ ، وأبو يعلى في المسند، ٤/٤، رقم: ٢٠٥١ ، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ١: ٥٢٤ ، رقم: ٨٦٨ ، والمناوي في فيض القديم، ٤/٣٠٢ .

اپنے کفوکی طرف کھڑا ہو جائے اور خود حضور نبی اکرم ﷺ حضرت عثمان کی طرف کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے گلے لگایا اور فرمایا: اے عثمان تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔“
اس حدیث کو امام حاکم اور ابو یعلی نے روایت کیا اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔



www.MinhajBooks.com

البَابُ الثَّانِي:



www.MinhajBooks.com



www.MinhajBooks.com

۱. فَصُلْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَكُونِهِ أَوَّلَ

مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ وَأَوَّلَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ

(سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے نام و نسب، مردوں میں سب سے پہلے)

اسلام لانے اور سب سے پہلے مدد و نور قرآن ہونے کا بیان ﴿

۱/۴۸. عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَأَمْرَأَتَانِ، وَأَبُو بَكْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

”حضرت ہمام بن حارث ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا: میں نے حضور ﷺ کو اس دور میں دیکھا کہ جب آپ ﷺ کے ہمراہ پانچ غلاموں، دو عورتوں اور حضرت ابو بکر ﷺ کے سوا کوئی نہ تھا۔“
اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

۲/۴۹. عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَحَبَّنَا إِلَى

۱: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب:
قول النبي ﷺ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، ١٣٣٨/٣، الرقم: ٣٤٦٠
والحاكم في المستدرك ، ٤٤٤/٣، الرقم: ٥٦٨٢، والبزار في المسند،
٤/٢٤٤، الرقم: ١٤١١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣٦٩/٦، الرقم:
- ١٢٨٨٣ -

۲: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ١٥/٢٧٩-٢٧٨، الرقم: ٦٨٦٢، والبزار
في المسند، ٣٧٣/١، الرقم: ٢٥١، والهيثمي في موارد الظمان، ٥٣٢/١،
الرقم: ٢١٩٩ -

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ خَيْرُنَا وَسَيِّدُنَا. ذَكَرَ الْبُيَانُ بِأَنَّ أَبَا بَكْرَ الصِّدِّيقَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ محبوب تھے، اور وہ ہم سے بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے یہاں تک کہ فرمایا: مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر تھے“

اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

٣/٥. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهْلِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِعُكَاظٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنِ اتَّبَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: اتَّبَعَنِي عَلَيْهِ رَجُلَانِ: حُرُّ وَعَبْدُ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَ: فَأَسْلَمْتُ عِنْدَ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَخَارِيُّ فِي الْكَبِيرِ.

”حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عمرو بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا، اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے مقام پر تشریف فرماتے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس دین پر آپ کی (اویں) اتباع کس نے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس پر میری اتباع دو مردوں نے کی ہے ایک آزاد اور ایک غلام، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اُس وقت اسلام قبول کیا تھا۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور بخاری نے ”التاریخ الكبير“ میں روایت کیا ہے۔

٣: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٦٩/٣، الرقم: ٤٤١٩، والبخاري في التاریخ الكبير، ٢٤٧٤، ٣٠٢/٦، الرقم: ٢٤٧٤۔

٤٥١ . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَ نَاسٌ مِّمَّنْ كَانَ وَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعَوْا بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: هَلْ كَيْفَ إِلَيْهِ صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ: أَوْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ . قَالُوا: أَوْ تُصَدِّقُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَا أُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ . أَصِدَّقُهُ بِخَيْرِ السَّمَاءِ فِي غَدوَةٍ أَوْ رُوحَةٍ . فَلَذِلِكَ سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ "الصِّدِّيقُ".

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ

"ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقۃ رضی الله عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب حضور نبی اکرم ﷺ کو مسجدِ قصیٰ کی طرف سیر کرائی گئی تو آپ ﷺ نے صح لوگوں کو اس کے بارے بیان فرمایا تو کچھ ایسے لوگ بھی اس کے مکر ہو گئے جو آپ ﷺ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ ﷺ کی تصدیق کر چکے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے: کیا آپ اپنے صاحب کی تصدیق کرتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں آج رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں! تو آپ ﷺ نے فرمایا: اگر آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً یقیناً فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا: کیا آپ ان کی تصدیق

٤: آخر جه الحاکم فی المستدرک، ٣/٦٥، الرقم: ٤٠٧، وعبد الرزاق فی المصنف، ٥/٣٢٨، وأبو یعلی فی المعجم، ١٠/٤٥، الرقم: ٩، والدیلمی فی مسنند الفردوس، ٥/٣٠٧، الرقم: ٨٢٧١۔

کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس تک گئے بھی ہیں اور صحیح ہونے سے پہلے واپس بھی آگئے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! میں تو آپ ﷺ کی تصدیق اُس خبر کے بارے میں بھی کرتا ہوں جو اس سے بہت زیادہ بعد از قیاس ہے، میں تو صحیح و شام آپ ﷺ کی آسمانی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ پس اس تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر ؓ ”الصدیق“ کے نام سے موسم ہوئے۔

اس حدیث کو امام حاکم اور عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔

٥٢. عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ سَمِعَ عَلِيًّا يَحْلِفُ لِأَنْزَلَ اللَّهُ اسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ صِدِيقًا . رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

”حضرت ابو بکر ؓ سے روایت ہے انہوں نے حضرت علی المرتضیؑ کو قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سُنا کہ حضرت ابو بکر ؓ کا لقب ”صدیق“ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

٥٣. عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَرْبَعَةً أَدْرَكُوا النَّبِيَّ ﷺ وَأَبْنَاؤُهُمْ إِلَّا هُؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ: أَبُو قُحَافَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو عَتَيْقٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاسْمُ أَبِي عَتَيْقٍ مُحَمَّدٌ .

روأه الطبراني والحاكم والبخاري في الكبير.

٥: آخرجه الحاکم فی المستدرک، ٦٥/٣، الرقم: ٤٤٥۔

٦: آخرجه الطبراني فی المعجم الكبير، ١/٥٤، الرقم: ١١، والحاکم فی المستدرک، ٣/٥٤، الرقم: ٦٠٠٨، والبخاري فی التاریخ الكبير، ١/٣٩٢، والشیانی فی الأحادیث والمثانی، ١/٧٧، الرقم:

”حضرت موسی بن عقبہ سے روایت ہے کہ ہم ایسے چار افراد کو نہیں جانتے کہ جنہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے بھی حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا ہو (یعنی انہیں شرف صحابیت نصیب ہوا ہو) سوائے ابو تقافل، ابو بکر، عبدالرحمن بن ابی بکر اور ابو عتیق محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہم کے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی، حاکم اور بخاری نے ”التاریخ الکبیر“ میں روایت کیا ہے۔

٤/٥٧. عَنْ عَلَىٰ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ أَجْرًا فِي الْمَصَاحِفِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ بَيْنَ الْلُّوْحَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت علی المتفق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا: قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ اجر پانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہم ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو دو جلدوں میں مجمع کیا۔“ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٥/٥٨. عَنِ الْلَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ عَتِيقًا لِجَمَالِ وَجْهِهِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت لیث بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عتیق آپ کی خوبروئی کی وجہ سے رکھا گیا اور آپ کا اصل نام عبد اللہ بن عثمان ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٧: آخر جهہ ابن ابی شیبہ فی المصنف، ١٤٨/٦، الرقم: ٣٠ ٢٢٩، وابن سعد فی الطبقات الکبریٰ، ١٩٣/٣۔

٨: آخر جهہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، ٥٢/١، الرقم: ٤، والشیانی فی الآحاد والمثانی، ٦٨/١، والھیشمی فی مجمع الزوائد، ٤١/٩۔

٥٦/٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِجَبْرِيلَ لَيْلَةَ أُسْرَىٰ لِهِ: إِنَّ قَوْمِي لَا يُصَدِّقُونَنِي، فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ: يُصَدِّقُكَ أَبُوكَرٌ وَهُوَ الصِّدِيقُ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرایل امین سے فرمایا: اے جبرایل! میری قوم (واقعہ معراج میں) میری صدیق نہیں کرے گی۔ جبرایل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥٧/١. عَنْ أَبِي يَحْيَى حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ يَحْلِفُ: لَلَّهُ أَنْزَلَ اسْمُ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ الصِّدِيقُ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المترضی رضی اللہ عنہ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب ”صدیق“ آسمان سے اُتارا گیا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

: ٩ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ١٦٦/٧، الرقم: ٧١٧٣، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٢١٥/١ -

: ١٠ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٥٥/١، الرقم: ١٤ -

۲. فَصْلٌ فِي مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ

﴿بَارِكَاهُ رسالتِ ﷺ میں حضرت ابو بکر صدیق (رض) کا مقام

و مرتبہ

۱۱/۵۸ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَةً عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. فَقُلْتُ: مَنِ الرِّجَالُ؟ فَقَالَ: أَبُوهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ فَعَدَ رِجَالًا مُفْتَقِّ عَلَيْهِ.

”حضرت عمرو بن العاص (رض) سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے غزوہ ذاتِ السلاسل کا امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا جب واپس آیا تو آپ ﷺ کی خدمت میں عرض گزار ہوا: عورتوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا: عائشہ کے ساتھ۔ میں نے پھر عرض کیا: مردوں میں سے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اُس کے والد (ابو بکر (رض)) کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا: پھر ان کے بعد؟ آپ ﷺ نے فرمایا: عمر بن

۱۱: أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي الصَّحِيفَ، كِتَابٌ: فَضَائِلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابٌ: مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رضي الله عنه، ۱۳۳۹/۳، الرَّقم: ۳۴۶۲، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيفَ، كِتَابٌ: فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ، بَابٌ: مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رضي الله عنه، ۱۸۵۶/۴، الرَّقم: ۲۳۸۴، وَالْتَّرْمِذِيُّ فِي السُّنْنَ، كِتَابٌ: الْمَنَاقِبُ، بَابٌ: مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رضي الله عنه، ۷۰۶/۵، الرَّقم: ۳۸۸۶، ۳۸۸۵، وَابْنُ ماجَهُ فِي السُّنْنِ، الْمُقْدِمَةُ، بَابٌ: فَضْلُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ، ۳۸/۱، الرَّقم: ۱۰۱، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۴/۲۰۳، الرَّقم: ۱۷۱۴۳ -

خطاب کے ساتھ اور پھر آپ ﷺ نے اُن کے بعد چند دوسرے حضرات کے نام لئے۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

١٢/٥٩ عن أبي الدرداء ﷺ قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ أَخِذًا بِطَرَفِ ثُوبِهِ، حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَيْنِ وَيْنَ ابْنِ الْخَطَابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي، فَأَبَيَ عَلَيَّ، فَأَقْبَلَ إِلَيْكَ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، ثَلَاثًا. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَ: أَثَمْ أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَرَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ، أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ، مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ بَعْشَيِّ إِلَيْكُمْ قَلُّتُمْ كَذَبَتْ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ. وَرَأَسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي؟ مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِي بَعْدَهَا. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ.

”حضرت ابو درداء ﷺ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ بھی اپنی چادر کا کنارہ پکڑے حاضرِ خدمت ہوئے۔ یہاں تک کہ اُن کا گھٹنا نگا ہو گیا، حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تمہارے یہ ساتھی

١٢: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: فضائل أصحاب النبي، باب: فضل أبي بكر الصديق، ١٣٣٩/٣، الرقم: ٣٤٦١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢٣٢/١٠، والطبراني في مسن الشاميين، ٢٠٨/٢، الرقم: ١٩٩، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٣٠٤/٩۔

لڑ جھکڑ کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سلام عرض کیا اور بتایا کہ میرے اور عمر بن خطاب رض کے درمیان کچھ تکرار ہوئی تو جلدی میں میرے منہ سے ایک بات نکل گئی جس پر مجھے بعد میں ندامت ہوئی اور میں نے اُن سے معافی مانگی لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر رض! اللہ تمہیں معاف فرمائے یہ تین مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رض نادم ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رض کے گھر گئے اور انکے بارے میں پوچھا کہ ابو بکر صدیق رض کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا: نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ بھی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے چہرہ پُر نور کا رنگ بدل گیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رض ڈر گئے اور گھنٹوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ ﷺ کی قسم! میں ہی زیادتی کرنے والا تھا۔ یہ دو مرتبہ عرض کیا پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے فرمایا: بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی (مجھے جھٹالیا) لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اور اپنے مال سے میری خدمت میں کوئی دیقۂ فروغ نہ رکھا۔ پھر دو مرتبہ فرمایا: کیا تم میرے ایسے ساتھی سے میرے لئے درگزر (نہیں) کرو گے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر رض کو کبھی اذیت نہیں دی گئی۔

اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

١٣/٦٠ . عَنْ أُبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ

: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: المناقب، باب: فى مناقب أبي بكر و عمر كليهما، ٥/٦١٢، الرقم: ٣٦٦٩، و ابن ماجه فى السنن، المقدمة، باب: فضل أبي بكر الصديق، ١/٣٨، الرقم: ٩٩، والحاكم فى المستدرك، ٤/١٢، الرقم: ٧٧٤٦، و ابن حبان فى طبقات المحدثين بأصبهان، ٤/٢٣٩، الرقم: ٦٤٠۔

يَوْمٍ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، وَقَالَ: هَكَذَا نُبَعِثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ.

”حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم ﷺ کھر سے باہر تشریف لائے مسجد میں داخل ہوئے اس دوران حضرت ابو بکر رض اور حضرت عمر رض آپ ﷺ کے ہمراہ تھے، ایک آپ ﷺ کی دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب اور حضور نبی اکرم ﷺ نے ان دونوں کا ہاتھ کپڑا ہوا تھا پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ہم قیامت کے روز اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔“
اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

١٤/٦١. عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

”امم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رض سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حضرت ابو بکر رض ہمارے سردار، ہم سب سے بہتر اور رسول اللہ ﷺ کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے،“
اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

١٥/٦٢. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٤: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي بكر الصديق رض، ٦٠٦، الرقم: ٣٦٥٦، والحاكم في المستدرك، ٦٩/٣، الرقم: ٤٤٢١۔

١٥: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٧٢/٣، الرقم: ٤٤٢٩، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ٣٥١/١، الرقم: ٥٠٧۔

أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَ عَنْهُ الْأَرْضُ أَنَا، ثُمَّ أَبُو بَكْرٌ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتَيَ أَهْلَ الْبُقِيعَ، فَتَنْشَقَ عَنْهُمْ فَأَبْعَثَ بَيْنَهُمْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ.

”حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے جس سے زمین پھٹے گی وہ میں ہوں پھر ابو بکر رض سے، پھر عمر رض سے، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو ان سے زمین شق (پھٹے) ہوگی پھر میں ان سب کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔“ اس حدیث کو امام حاکم اور احمد نے روایت کیا ہے۔

١٦/٦٣ . عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِحَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ: هَلْ قُلْتَ فِي أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: قُلْ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ: ثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِ لُبِّهِ رَجُلًا . رَوَاهُ الْحَاكِمُ .

”امام زہری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسان بن ثابت رض سے فرمایا: کیا تم نے ابو بکر (صدقی رض) کے بارے کچھ کلام کہا ہے۔ انهوں نے عرض کی، ہاں (یا رسول اللہ!)۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ وہ کلام مجھے سناؤ میں سنوں گا۔ حضرت حسان رض یوں کویا ہوئے وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے۔ جب وہ حضور ﷺ کو لے کر پہاڑ (جل ثور) پر چڑھے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے اور تمام صحابہ رض کو معلوم ہے کہ وہ (حضرت ابو بکر رض) رسول اللہ ﷺ کے محبوب ہیں اور آپ ﷺ کسی شخص کو ان کے برابر شمار نہیں کرتے ہیں۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نہیں

١٦: أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِكَ، ٦٧/٣، الرَّقْمُ: ٤٤١٣، وَابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الْكَبْرَى، ١٧٤/٣ -

پڑے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے حسان تم نے سچ کہا، وہ (ابو بکر) بالکل ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

١٧/٦٤ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله ﷺ و إحدى يديه على أبي بكر والآخر على عمر. فقال: هكذا نبعث يوم القيمة. رواه الحاكم.

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ ﷺ کا ایک دست مبارک حضرت ابو بکر ﷺ پر تھا اور دوسرا حضرت عمر ﷺ پر پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اس طرح ہم قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

١٨/٦٥ عن أنس بن مالك قال: كنا نجلس مع النبي كأنما على رءوسنا الطير. ما يتكلم أحد منا إلا أبو بكر وعمر. رواه الطبراني.

”حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ جب ہم حضور نبی اکرم ﷺ کی مجلس میں بیٹھتے تو ہماری یہ حالت ہوتی گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی کلام نہ کر سکتا سوائے ابو بکر اور عمر رضي الله عنهما کے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

١٧: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٧١/٣، الرقم: ٤٤٢٨۔

١٨: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٥/٨، الرقم: ٧٧٨٢، والهشمي في مجمع الزوائد، ٥٣/٩۔

۳۔ فَصُلْ فِي أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ حُبًا لِلنَّبِيِّ ﷺ

﴿ صَدِيقُ الْأَوَّلِينَ ﴾ کے عشقِ رسول ﷺ کا بیان

۱۹/۶۶ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ. قال: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ. فَعَجِبَنَا لِبُكَائِهِ: أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْمُخَيْرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا. مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ.

”حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه“ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے خطبه ارشاد فرمایا: ”پیشک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے کے درمیان اختیار دیا ہے۔ پس اس بندے نے اُس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه روپڑے۔ ہم نے اُن کے رونے پر تعجب کیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ تو ایک بندے کا حال بیان فرمار ہے ہیں کہ اُس کو اختیار دیا گیا ہے۔ پس وہ (بندہ) جس کو اختیار دیا گیا تھا خود تاجدارِ کائنات ﷺ تھے اور

۱۹: أَخْرَجَهُ الْبَخْرَارِيُّ فِي الصَّحِيفَةِ، كِتَابُ فِضَالِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، بَابٌ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ سَدَّوَا الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ، الرَّقم: ۳۴۵، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيفَةِ، كِتَابُ فِضَالِ الصَّحَافَةِ، بَابٌ: مِنْ فِضَالِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رضي الله عنه، الرَّقم: ۲۳۸۲، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيفَةِ، كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابٌ: مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ، الرَّقم: ۶۰۷/۵، الرَّقم: ۳۶۵۹، وَابْنُ حَبَّانُ فِي الصَّحِيفَةِ، الرَّقم: ۱/۴، ۵۵۹، الرَّقم: ۶۵۹.

ابو بکر صدیق رض ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے (جو حضور ﷺ کی مراد سمجھ گئے)۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٠. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدًا خَيْرٌ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُوتَيْهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتارَ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدِينَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِآبائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَعَجِبْنَا! فَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُوتَيْهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ: فَدِينَاكَ بِآبائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ الْمُخَيْرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت ابو سعید خدری رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمادی تو فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ یا تو دنیا کی آرائش سے جو چاہے لے لے یا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ حاصل کرے، تو اس بندے نے اُسے پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ (یہ سن کر) حضرت ابو بکر رض نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ راوی فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس شیخ کی طرف دیکھو! حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے

٢٠: أَنْجَرَهُ الْبَخَارِيُّ فِي الصَّحِيفَةِ، كِتَابٌ: فِضَائِلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بَابٌ: هَجْرَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ١٤١٧/٣، الرَّقم: ٣٦٩١
وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيفَةِ، كِتَابٌ: فِضَائِلُ الصَّحَابَةِ، بَابٌ: مِنْ فِضَائِلِ أَبْيَ بَكْرٍ
الصَّدِيقِ، ١٨٥٤/٤، الرَّقم: ٢٢٨٢، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي السِّنْنِ، كِتَابٌ:
الْمَنَاقِبُ، بَابٌ: مَنَاقِبُ أَبْيَ بَكْرٍ، ٤١/٦، الرَّقم: ٣٦٦٠، وَابْنُ حَبَّانُ فِي
الصَّحِيفَةِ، ٢٧٧/١٥، الرَّقم: ٦٨٦١۔

متعلق فرماده ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے دنیا کی آرائش یا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اُن میں سے ایک کے حصول کا اختیار دیا اور یہ فرماده ہے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضرت ابوسعید خدری رض نے فرمایا: درحقیقت حضور ﷺ کو ہی اختیار دیا گیا تھا اور حضرت ابو بکر رض اس بات کو ہم سب سے زیادہ جانتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرُونَ بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ
الْمُؤْذِنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأَقِيمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو
بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي
الصَّفِّ، فَصَافَقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِثُ فِي صَلَاةٍ هُوَ فَلَمَّا أَكْثَرَ
النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَّفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدِيهِ، فَحَمَدَ اللَّهَ عَلَى مَا
أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَاخَرَ أَبُو بَكْرٍ رض حَتَّى اسْتَوَى
فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا
بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْبُثَ إِذْ أَمْرُتُكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي

21: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأذان، باب: مَنْ دَخَلَ لِيَوْمَ النَّاسِ
فَجَاءَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ، ۲۴۲، الرَّقم: ۶۵۲، ومسلم في الصحيح، كتاب:
الصلوة، باب: تقديم الجماعة من يصلى بهم، ۳۱۶/۱، الرَّقم: ۴۲۱، وأبو
داود في السنن، كتاب: الصلاة ، باب: التصفيق في الصلاة، ۲۴۷/۱، الرَّقم:
۹۴۰، والنسائي في السنن، كتاب: الإمامة، باب: استخلاف
الإمام، ۸۲/۲، الرَّقم: ۷۹۳ ومالك في الموطأ، ۱۶۳/۱، الرَّقم: ۳۹۰۔

فَحَافَةً أَنْ يُصْلِيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ مُصْلَيَّهُمْ مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت سہل بن سعد سعیدی روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ بنی عمر و بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے تاکہ اُن (کے کسی تنازعہ) کی صلح کر دیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ موذن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا: اگر آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں تو میں اقامت کہہ دوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ تو اسی دوران رسول اکرم ﷺ والپس تشریف لے آئے اور لوگ ابھی نماز میں تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ صفوں میں داخل ہوتے ہوئے پہلی صفائی میں جا کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے تالی کی آواز سے آپ رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنا چاہا۔ مگر چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حالت نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتے تھے اس لئے ادھر متوجہ نہ ہوئے۔ پھر جب لوگوں نے بہت زور سے تالیاں بجا کیں تو آپ متوجہ ہوئے اور حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں (ابو بکر صدیق کو) اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کئے اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کی اور اللہ کے رسول مکرم ﷺ نے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا جو حکم فرمایا تھا اس پر اللہ کا شکردا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور صفائی میں مل گئے۔ رسول اللہ آگے تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ انماز سے فارغ ہوئے تو ادھر متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے ابو بکر! جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں اپنی جگہ پر قائم رہنے سے منع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ابو قافلہ کے بیٹی کی کیا مجال کہ رسول اللہ ﷺ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٢/٦٩ . عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ مُصْلَيَّهُمْ وَهُوَ أَبْنُ شَلَاثٍ وَسَتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُوَ أَبْنُ شَلَاثٍ وَسَتِّينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٢: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: كم سن النبي ﷺ، يوم قبض، ١٨٢٥ / ٤، الرقم: ٢٣٤٨ -

”حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو آپ ﷺ کی عمر مبارک تریسٹھ سال (۲۳) سال تھی اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کا وصال ہوا تو ان کی عمر بھی (حضور نبی اکرم ﷺ کی متابعت میں) تریسٹھ سال تھی۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

۲۳/۷۰ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ يَقُولُ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالًا، فَقُلْتُ: إِلَيْوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ: فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلُهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبْدَأْ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاؤُدَ.

”حضرت زیدؓ بن اسلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں حضور نبی اکرم ﷺ نے صدقہ دینے کا حکم فرمایا۔ اس حکم کی تغییر کے لئے میرے پاس مال تھا۔ میں نے (اپنے آپ سے) کہا، اگر میں ابو بکر صدیقؓ سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج سبقت

۲۳: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: المناقب، باب: فى مناقب أبي بكر و عمر رضى الله عنهما كليهما، ۶/۴۶۱، الرقم: ۳۶۷۵، وأبوداود فى السنن، كتاب: الزكاة، باب: الرخصة فى ذلك، ۲/۹۱، الرقم: ۱۶۷۸، والدارمى فى السنن، ۱/۴۸۰، الرقم: ۱۶۶۰، والحاكم فى المستدرك، ۱/۵۷۴، الرقم: ۱۵۱۰ -

لے جاؤں گا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: اتنا ہی مال ان کے لئے چھوڑ آیا ہوں۔ (انتے میں) حضرت ابو بکرؓ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکرؓ! اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی: میں ان کے لئے اللہ اور اُس کا رسول ﷺ چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے (دل میں) کہا، میں ان سے کسی شے میں آگے نہ بڑھ سکوں گا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔

٢٤/٧١ عن طَارِقٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ أصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ لِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّنْقُوَىٰ، [الحجرات، ٤٩: ٣]، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَكَلِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ إِلَّا كَأْخِي السِّرَارِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

”حضرت طارق سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ جب سورت الحجرات کی آیت: ”بِيَكِّنَ وَهُوَ لَوْگُ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ ﷺ کے سامنے پسٹ رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقویٰ کے لئے منقص کر لیا ہے“، حضور نبی اکرم ﷺ پر نازل ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صرف سرگوشی کی صورت میں (ہی کلام) کروں گا، جس طرح کوئی راز دان سرگوشی کرتے ہیں۔“

٢٤: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/٧٨، الرقم: ٤٤٩، والعسقلاني في المطالب العالية، ٤/٣٣، الرقم: ٣٨٨٧۔

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

۲۵/۷۲ . عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ ضَرَبُوا رَسُولَ اللَّهِ مُصْنِعِهِمْ حَتَّى
غَشِيَ عَلَيْهِ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ يُنَادِي يَقُولُ: وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا
أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ؟ قَالُوا: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ الْمَجْنُونُ.
رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

”حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ کفار و مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو اس قدر جسمانی اذیت پہنچائی کہ آپ ﷺ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکرؓ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے تم تباہ و بر باد ہو جاؤ، کیا تم ایک (مزز) شخص کو اس لئے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ ان ظالموں نے کہا، یہ کون ہے؟ (کفار و مشرکین میں سے کچھ) لوگوں نے کہا: یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے جو (محبت رسول ﷺ میں) مجنوں (بن چکا) ہے۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

۲۶/۷۳ . عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ سَبَبُ مَوْتِ
أَبِي بَكْرٍ مَوْتُ رَسُولِ اللَّهِ مُصْنِعِهِ مَا زَالَ جِسْمُهُ يَجْرِي حَتَّى مَاتَ.
رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

۲۵: أخرجه الحاکم فی المستدرک، ۷۰/۳، الرقم: ۴۴۲۴، والمقدسي فی الأحادیث المختارۃ، ۲۲۱/۶، والهیشمی فی مجمع الزوائد، ۶/۱۷۔

۲۶: أخرجه الحاکم فی المستدرک، ۶۶/۳، الرقم: ۴۱۰، وابن الجوزی فی صفوۃ الصفوہ، ۱/۲۶۳۔

”حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا تھا۔ (اس فراقی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کمزور ہوتا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَذَكَّرَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَبَتِهِمْ وَأَبُو بَكْرٍ مِيلَادَهُمَا عِنْدِي . فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَبَتِهِمْ أَكْبَرَ مِنْ أَبِيهِ بَكْرٍ , فَتُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَبَتِهِمْ وَهُوَ أَبْنُ ثَلَاثَةِ وَسِتِّينَ وَتُوْفِيَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ أَبْنُ ثَلَاثَةِ وَسِتِّينَ لِسَنَتِينِ وَنَصْفِ الْتِي عَاشَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ .
رواه الطبراني وإسناده حسن.

”امُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنے یوم ولادت کے حوالے سے میرے پاس بیٹھے ہوئے مذاکرہ ہوا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر کے اعتبار سے (بھی) بڑے تھے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۲۳ برس تھی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ان کی عمر بھی تریسٹھ (۲۳) برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اڑھائی سال تک عمر مبارک میں بڑے تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دنیا میں حیات رہے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہے۔

: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١/٥٨، رقم: ٢٨، والهشمي في مجمع الزوائد، ٩/٦٠۔

۲۸/۷۵ عن أنسٍ، قالَ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْغَارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَدْخُلُ قَبْلَكَ فَإِنْ كَانَ حَيَّةً أَوْ شَيْءًا كَانَتْ لِي قَبْلَكَ قَالَ طَهِّيرَةً: ادْخُلْ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ بِيَدِهِ، كُلَّمَا رَأَى جُحْرًا قَالَ: بِثُوَبِهِ فَشَقَّهُ ثُمَّ أَلْقَمَهُ الْجُحْرَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثُوَبِهِ أَجْمَعَ. قَالَ: فَبِقِيَ جُحْرٌ فَوَضَعَ عَقْبَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ رَسُولَ اللَّهِ طَهِّيرَةً. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ طَهِّيرَةً: فَأَيْنَ ثُوبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَأَخْبَرَهُ بِالذِّي صَنَعَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ طَهِّيرَةً يَدِيهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَبَا بَكْرٍ مَعِيَ فِي دَرَجَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّوجَلَّ إِلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اسْتَجَابَ لَكَ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

”حضرت انس بن مالک رض سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: جب غار کی رات تھی تو ابو بکر صدیق رض نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت عنایت فرمائیے کہ میں آپ سے پہلے غار میں داخل ہوں تاکہ اگر کوئی سانپ یا کوئی اور چیز ہو تو وہ آپ رض کی بجائے مجھے تکلیف پہنچائے۔ آپ رض نے فرمایا: داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رض داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ سے ساری جگہ کی تلاشی لینے لگے۔ جب بھی کوئی سوراخ دیکھتے تو اپنے لباس کو پھاڑ کر سوراخ کو بند کر دیتے۔ یہاں تک کہ اپنے تمام لباس کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر بھی ایک سوراخ نج گیا تو انہوں نے اپنی ایڑی کو اس سوراخ پر رکھ دیا اور پھر رسول اللہ رض کو اندر تشریف لانے کی گزارش کی۔ جب صح ہوئی تو حضور نبی اکرم رض نے حضرت ابو بکر صدیق رض سے کہا: ”اے ابو بکر! تمھارا

۲۸: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ۳۳/۱، وابن الجوزي في صفوة الصفوة، ۲۴۰/۱، ومحب الطبرى في الرياض النضرة، ۴۵۱/۱۔

لباس کہاں ہے؟ تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا اُس کے بارے بتا دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی: اے میرے اللہ! ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی طرف وحی فرمائی کہ اُس نے آپ ﷺ کی دُعا کو قبول فرمایا ہے۔“ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔

٢٩/٧٦ عن ابن عمر، قال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقِ، وَعَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَدْ خَلَّهَا فِي صَدْرِهِ بِخَلَالٍ، فَنَزَّلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَالِي أَرَى أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهِ عَبَاءَةً قَدْ خَلَّهَا فِي صَدْرِهِ؟ فَقَالَ: يَا جِبْرِيلُ، أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَيَّ قَبْلَ الْفُتُحِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ قُلْ لَهُ: أَرَاضِ أَنْتَ عَنِي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاحِطٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: أَرَاضِ أَنْتَ عَنِي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاحِطٌ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْحَطُ عَلَى رَبِّي؟ أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ، أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ، أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ۔ رَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ۔

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ ﷺ کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ آپ نے عباء (لباس جو سامنے سے کھلا ہوا ہو اور اُس کو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے) پہنی ہوئی تھی جس کو اپنے سینے پر خلال (لکڑی کا لکڑا، جس سے سوراخ کیا جاتا

٢٩: أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمَ فِي حَلِيَّةِ الْأُولَى، ١٠٥/٧، وَابْنُ الْجُوزِيِّ فِي صَفَةِ الصَّفْوَةِ، ٢٥٠/١، وَابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ٤/٣٠٨، وَمَحْبُ الطَّبْرَى فِي الرِّيَاضِ النَّضْرَةِ، ٢/٢٠۔

ہے) سے جوڑا ہوا تھا اس وقت حضور نبی اکرم ﷺ پر جبرائیل اللہ تعالیٰ نازل ہوئے اور عرض کیا: اے محمد، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر رض نے عباء پہن کر اُسے اپنے سینے پر ٹانکا ہوا ہے؟ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے جبریل، انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ جبریل اللہ تعالیٰ نے عرض کیا: اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر رض سے کہیں، کیا تو اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے یا ناراضی؟ اس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تمہیں (کیا) فرماتے ہیں: ”کیا تو اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے یا ناراضی؟“ ابو بکر رض نے عرض کیا۔ میں اپنے رب کریم پر ناراضی ہوں گا؟ میں تو اپنے رب سے (ہر حال میں) راضی ہوں میں اپنے رب کریم سے راضی ہوں۔ میں اپنے رب کریم سے راضی ہوں۔“

اس حدیث کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔

٤. فَصْلٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَهُ صَاحِبًا لَهُ

وَرَفِيقًا وَنَائِبًا وَوزِيرًا

﴿ حضور ﷺ کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا ساتھی، دوست، نائب، اور

وزیر قرار دینے کا بیان ﴿

۳۰/۷۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: لو كنْت مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لَا تَخَذُثُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي مُتَّقِقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

۳۱/۷۸ عن أنسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ تَعَبُّرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٠: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: قول النبي ﷺ: لو كنت متخذا خليلاً، لآخذ أبا بكر، ولكن أخي وصاحبِي متققٌ عليه. كتب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق، ١٨٥٥/٤، الرقم: ١٣٣٨/٣، الرقم: ٣٤٥٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: الأذان، باب: أهل العلم والفضل، الرقم: ٤١٦٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤٣٧/١، الرقم: ٢٣٨٣.

٣١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأذان، باب: أهل العلم والفضل أحقر بالإمامية، ١/٢٤٠، الرقم: ٦٤٨، وفي كتاب: المغازى، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته، ٤/٦١٦، الرقم: ٤١٨٣، ومسلم في الصحيح،

وَخَدَمَهُ وَصَاحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجْعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي
تُوْقَى فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوقٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ
النَّبِيُّ ﷺ سِرْرَ الْحُجْرَةِ يُنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَانَ وَجْهُهُ وَرَقَّةً مُصَحَّفٍ،
ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَّمْنَا أَنْ نَفْتَسَنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ
فَكَصَّ أَبُوبَكْرٍ عَلَى عَقِبِيهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى
الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ أَتَمُوا صَلَاتَكُمْ وَأَرْخُى السِّرْرَ فَتُوْقَى
مِنْ يَوْمِهِ ﷺ. مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے جو کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں رہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ، حضور نبی اکرم ﷺ کے مرض وصال کے دوران صحابہ کرام ﷺ کو نماز پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیر کا دن آگیا اور صحابہ کرام ﷺ نماز کی حالت میں صافیں باندھے کھڑے تھے۔ (اس دوران) حضور نبی اکرم ﷺ نے (اپنے) حجرہ مبارک سے پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آپ ﷺ کا چہرہ انور کھلے ہوئے قرآن کی طرح ہے پھر آپ ﷺ نے تبسم فرماتے ہوئے ہنسنے لگے۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے دیدار کی خوشی سے نماز توڑ دیں گے پھر حضرت ابو بکر ﷺ اپنی ایڑیوں کے مل (مصلہ امامت سے پیچھے لوٹے تاکہ صفائی میں شامل ہو جائیں اور گمان کیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نماز کے لئے (گھر سے) باہر تشریف لانے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے ہمیں اشارہ فرمایا کہ تم

..... كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام، ٣١٥ / ١، الرقم: ٤١٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ١٩٦ / ٣، الرقم: ١٣٠٥١، وابن حبان في الصحيح، ٤ / ٨٧، الرقم: ٦٦٢٠

لوگ اپنی نماز کو مکمل کرو اور پرده نیچے سرکا دیا۔ پھر آپ ﷺ کا اُسی دن وصال ہو گیا۔“
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٣٢/٧٩ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا، فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ أَبِي: كَانَهَا تَعْنِي الْمَوْتَ. قَالَ: فَإِنَّ لَمْ تَجِدِنِي فَأَتَيْ أَبَا بَكْرٍ. مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت محمد بن جبیر بن مطعمؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کسی چیز کے بارے میں پوچھا۔ آپ ﷺ نے اُسے دوبارہ آنے کا حکم فرمایا، اُس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کونہ! اگر میں آؤں اور آپ ﷺ کونہ پاؤں تو؟ (محمد بن جبیر فرماتے ہیں کہ) میرے والد (جبیر بن مطعم) نے فرمایا: گویا وہ عورت آپ ﷺ کا وصال مراد لے رہی تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٣٣/٨٠ عنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ:

٣٢: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب: من فضائل أبي بكر الصديق، ١٣٣٨/٣، الرقم: ٣٤٥٩، ومسلم فى الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق ﷺ، ٤/١٨٥٦، الرقم: ٢٣٨٦، والترمذى فى السنن، كتاب: المناقب، باب: فى مناقب أبي بكر و عمر رضي الله عنهما كليهما، ٦١٥/٥، الرقم: ٣٦٧٦۔

٣٣: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: الخوخة والممر فى المسجد، ١٧٧/١، الرقم: ٤٥٤، والترمذى فى السنن، كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي بكر الصديق ﷺ، ٦٠٨/٥، الرقم: ٣٦٦٠، وابن حبان۔

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أَمْنِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرًا، وَلَكِنْ أُخْوَةُ الْإِسْلَامِ
وَمَوَدَّتُهُ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَالْتَّرْمِذِيُّ.

”حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ (اب خلت تو نہیں ہے) لیکن اسلام کی اخوت (برادری) اور مودت ہے۔“
اس حدیث کو امام بخاری اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

٣٤/٨١. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي مَرَضِهِ: مُرُوْأً أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرِّعِ
عُمَرَ فَلِيُصَلِّي لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُوْلِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ
إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرِّعِ عُمَرَ فَلِيُصَلِّي لِلنَّاسِ
فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِكُ الْعَالَمِينَ: مَهُ، إِنَّكَ لَأَنْتَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ

..... فی الصحيح، ١٤، الرقم: ٥٥٩، وأحمد بن حنبل في المسند،

٣٥٩/١، الرقم: ٣٣٨٥ - فی الصحيح، ١٤، الرقم: ٥٥٩، الرقم: ٦٥٩٤،

- وأحمد بن حنبل في المسند، ٣٥٩/١، الرقم: ٣٣٨٥

٣٤: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الآذان، باب: أهل العلم والفضل
أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ، ١/٢٤٠، الرقم: ٦٤٧، والترمذى في السنن، كتاب:
المناقب، باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، ٥/٦١٣،
الرقم: ٣٦٧٢، ومالك في الموطأ، ١/١٧٠، الرقم: ٤١٢، وأحمد بن
حنبل في المسند، ٦/٩٦، الرقم: ٢٤٦٩١، وابن حبان في الصحيح،
٤/٥٦٦، الرقم: ٦٦٠١

مُرُوَا أَبَابُكِرٍ فَلِيُصَلِّ لِلنَّاسِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْتِرْمِذِيُّ .

”أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَعَى رَوْاْيَتُهُ يَقِنَّا بِهِ كَهْ حَضُورُ نَبِيِّ اَكْرَمِ شَلَّيْلَتِهِمْ نَعَى اَپَنِے مَرْضِ وَصَالِ مِنْ فَرْمَایا: ابُوبَكْرُ كَوْ (مِيرِي طَرْفِ سَعَى) حَكْمَ دُوْكَوْ لَوْگُوں کَوْ نَمازِ پڑھائِیں۔ حَضْرَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَمَتِی ہیں کَہ مِنْ نَعَى کَہْ حَضْرَتْ ابُوبَكْرِ شَلَّيْلَتِهِمْ جَبْ آپْ شَلَّيْلَتِهِمْ کَیِ جَگَہ پَرْ كَھرَے ہوں گے توْهُ كَثْرَتْ گَرِيْيَہ کَیِ وجَہَ سَعَى لَوْگُوں کَوْ (قَرَأَتْ) نَهِيْسَ سَانِکَسِيْنَ گے۔ (اَسَ لَئِے) آپْ حَضْرَتْ عَمَرَ شَلَّيْلَتِهِمْ کَوْ حَكْمَ فَرَمَيْيَں کَہ دَوْ لَوْگُوں کَوْ نَمازِ پڑھائِیں۔ حَضْرَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَمَتِی ہیں کَہ مِنْ نَعَى حَضْرَتْ حَفْصَةَ سَعَى کَہْ حَضْرَتْ حَفْصَةَ سَعَى حَضُورُ نَبِيِّ اَكْرَمِ شَلَّيْلَتِهِمْ سَعَى عَرْضَ كَرِيْيَہ کَہْ حَضْرَتْ ابُوبَكْرِ صَدِيقِ شَلَّيْلَتِهِمْ جَبْ آپْ کَے مَقَامِ (مَصْلِيِّ) پَرْ كَھرَے ہوں گے توْ رُونَے کَیِ وجَہَ سَعَى لَوْگُوں کَوْ كَچْھِ سَانِہَ پَائِيْں گے۔ پَسْ آپْ حَضْرَتْ عَمَرَ شَلَّيْلَتِهِمْ کَوْ حَكْمَ فَرَمَيْيَں کَہ دَوْ لَوْگُوں کَوْ نَمازِ پڑھائِیں چَنَاجِيْه حَضْرَتْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَعَى اِيْسَے ہیِ کَیَا۔ حَضُورُ نَبِيِّ اَكْرَمِ شَلَّيْلَتِهِمْ نَعَى فَرْمَایا: زَكَ جَاؤَ! بَيْشِكَ تَمْ صَوَاحِبَ يُوسُفَ کَیِ طَرَحْ ہو۔ ابُوبَكْرِ شَلَّيْلَتِهِمْ کَوْ (مِيرِي طَرْفِ سَعَى) حَكْمَ دُوْكَوْ لَوْگُوں کَوْ نَمازِ پڑھائِیں۔“ اَسَ حَدِيْثَ کَوْ اَمَامَ بَجَارِيَ اَوْ تَرْمِذِيَ نَعَى رَوْاْيَتَ کَیَا ہے۔

٣٥/٨٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَلَّيْلَتِهِمْ لَا

يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٌ أَنْ يَوْمُهُمْ غَيْرُهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

”أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَعَى رَوْاْيَتُهُ يَقِنَّا بِهِ كَہْ رَسُولُ اللَّهِ شَلَّيْلَتِهِمْ نَعَى فَرْمَایا: کَسِيْ قَوْمَ کَلَّا مَنَاصِبَ جَنِ مِنْ ابُوبَكْرِ صَدِيقِ شَلَّيْلَتِهِمْ مُوجَدُ ہوں کَہ اَنْ کَیِ اِمامَتِ اَنْ (ابُوبَكْرِ صَدِيقِ شَلَّيْلَتِهِمْ) کَعَلَادَه کَوَّيِ اَوْ خَصْصَ كَرَوَائِے۔“ اَسَ حَدِيْثَ کَوْ اَمَامَ تَرْمِذِيَ نَعَى رَوْاْيَتَ کَیَا ہے۔

٣٥: اُخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي السَّنَنِ، كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ: فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ

وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَلِيْهِمَا، ٥/٦١٤، الرَّقْمُ: ٣٦٧٣ -

۵. فَصْلٌ فِي مُصَاحَبَتِهِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ وَالْمَزَارِ

﴿ حَضْرَتُ ابُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَحْضُورِ ﷺ كَارْفِقِ غَارٍ وَمَزَارٍ هُونَةً ﴾

کا بیان

۳۶/۸۳ عنْ أَنَسِ، عَنْ أَيْ بِكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدْمِيْهِ لَا بُصَرَنَا، فَقَالَ: مَا ظَنْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بَاشِنِيْنِ، اللَّهُ تَعَالَى لِنَهْمَاهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالْتَّرْمِذِيُّ.

”حضرت انسؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا جبکہ میں (آپ کے ساتھ) غار میں تھا: اگر ان (تلاش کرنے والے کفار) میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف (جھک کر) دیکھے تو میقیناً ہمیں دیکھ لے گا تو حضور ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکرؓ! ان دو (افراد) کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیرسا خود اللہ ہو۔“

اس حدیث کو امام بخاری اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

۳۶: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيفَ، كِتَابٌ: فِضَائِلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، بَابٌ: مَنَاقِبُ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ، ۱۳۳۷/۳، الرَّقم: ۳۴۵۳، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيفَ، كِتَابٌ: فِضَائِلُ الصَّحَابَةِ، بَابٌ: مِنْ فِضَائِلِ أَيْ بِكْرِ الصَّدِيقِ، ۴/۱۸۵۴، الرَّقم: ۲۳۸۱، وَالْتَّرْمِذِيُّ فِي السِّنْنِ، كِتَابٌ: تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ، بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ، ۵/۲۷۸، الرَّقم: ۹۶/۳۰، وَابْنُ حِبْرَانَ فِي الصَّحِيفَ، ۱۴/۱۸۱، الرَّقم: ۶۲۷۹، وَأَحْمَدُ بْنُ حِنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۱/۴، الرَّقم: ۱۱، وَأَبُو يَعْلَى فِي الْمُسْنَدِ، ۱/۶۸، الرَّقم: ۶۶۔

٣٧/٨٤ عن ابن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيهِ بَكْرٍ: أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ، وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

”حضرت عبد الله بن عمر رض سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رض سے فرمایا: آپ حوض (کوثر) پر میرے ساتھی ہیں اور غار (ثور) میں بھی میرے ساتھی ہیں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ابو عیسیٰ الترمذی نے اسے حدیث حسن کہا ہے۔


٣٨/٨٥ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرُ الصَّدِيقُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ الْوَزِيرِ. فَكَانَ يُشَارُرُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، وَكَانَ ثَانِيَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ ثَانِيَهُ فِي الْغَارِ، وَكَانَ ثَانِيَهُ فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ ثَانِيَهُ فِي الْقَبْرِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْدِمُ عَلَيْهِ أَحَدًا. رواهُ الحاكمُ.

”حضرت سعید بن مسیب رض سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رض، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وزیر کی حیثیت رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امور میں ان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رض اسلام لانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی (دوسرے) تھے، غار (ثور) میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے، غزوہ بدر میں

٣٧: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: المناقب، باب: فى مناقب أبي بكر و عمر كليهما، ٥/٦١٣، الرقم: ٣٦٧٠

٣٨: أخرجه الحاكم فى المستدرك، ٣/٦٦، الرقم: ٤٤٠٨

عریش (وہ چھپر جو حضور ﷺ کے لئے بنایا گیا تھا) میں بھی آپ ﷺ کے ثانی تھے، قبر میں حضور ﷺ کے ثانی ہیں اور رسول اللہ ﷺ ان (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ) پر کسی کو بھی مقدم نہیں سمجھتے تھے۔“ اس حدیث کو امام حامن نے روایت کیا ہے۔



www.MinhajBooks.com

٦. فَصْلٌ فِي مَكَانَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْآخِرَةِ

﴿روز آخرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ﴾

٣٩/٨٦ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أفق زوجين من شيءٍ من الأشياء في سبيل الله، دعى من أبواب يعني: الجنة. يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الصيام، وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبي بكر.

رواہ البخاری والنسائی وأحمد.

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سننا: جو اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے

٣٩: آخر جه البخاری فی الصحيح، کتاب: فسائل أصحاب النبي، باب: قول النبي ﷺ: لو كنت متخدناً خليلًا، ١٣٤٠/٣، الرقم: ٣٤٦٦، والنسائی فی السنن الكبرى، ٦/٢، الرقم: ٢٢١٩، وأحمد بن حنبل فی المسند، ٢٦٨/٢، الرقم: ٧٦٢١، وابن حبان فی الصحيح، ٢٠٦/٨، الرقم: ٣٤١٨، وابن أبي شيبة فی المصنف، ٣٥٣/٦، الرقم: ٣١٩٦٥۔

دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے! یہ خیر ہے پس جواہل صلاۃ (نمایوں) میں سے ہو گا اُس کو باب الصلاۃ سے نکالیا جائے گا اور جواہل جہاد میں سے ہو گا اُسے باب المجهاد سے بلایا جائے گا اور جواہل صدقۃ (خیرات والوں) میں سے ہو گا اُسے باب الصدقۃ سے بلایا جائے گا اور جواہل صیام (روزہ داروں) میں سے ہو گا اُسے باب الصیام اور باب الریان سے بلایا جائے گا۔ پس حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے عرض کیا: جو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے اُسے تو خدشہ ہی کیا۔ پھر عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، اے ابو بکر! مجھے امید ہے کہ تم اُن لوگوں میں سے ہو (جنہیں تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا)۔ اس حدیث کو امام بخاری، نسائی اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٌ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٌ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٌ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٌ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِءٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

”حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور رسالتہ ﷺ نے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ ابو بکر صدیق ﷺ نے عرض کیا: میں، پھر حضور ﷺ نے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ ابو بکر ﷺ نے عرض کیا:

٤٠: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيفَةِ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابٌ: مِنْ جَمْعِ الصَّدَقَةِ وَأَعْمَالِ الْبَرِّ، ٧١٣/٢، الرَّقمُ ١٠٢٨، وَالنَّسَائِيُّ فِي السِّنَنِ الْكَبِيرِ، ٣٦/٥، الرَّقمُ: ٨١٠٧، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السِّنَنِ الْكَبِيرِ، ١٨٩/٤، الرَّقمُ: ٩٧٦١٩، وَفِي شَعْبِ الإِيمَانِ، ٦/٥٣٧، الرَّقمُ: ٩١٩٩

میں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر ﷺ نے عرض کیا: میں نے، آپ ﷺ نے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت (تیمار داری) کی؟ ابو بکر صدیق ﷺ نے عرض کیا: میں نے، پھر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس میں یہ باتیں جمع ہوں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔

اس حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

٤١/٨٨. عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، فَيُوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا.

رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

”أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ صدیقۃ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ پس اُس دن سے آپ ﷺ کا نام ”عتیق“ رکھ دیا گیا۔“ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٤٢/٨٩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ

٤١: أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب: المناقب، باب: فی مناقب أبی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ٦/٥، الرقم: ٣٦٧٩، وابن حبان فی الصحيح، ٢٧٩/٥، الرقم: ٦٨٦، والحاکم فی المستدرک، ٤٥٠/٢، الرقم: ٣٥٥٧، والطبرانی فی المعجم الكبير، ٥٣/١، والبزار فی المستند، ٦/١٧٠، الرقم: ٢٢١٣۔

٤٢: أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب: المناقب، باب: فی مناقب عمر بن الخطاب ﷺ، ٦٢٢/٥، الرقم: ٣٦٩٤، والحاکم فی المستدرک، ٧٦/٣، الرقم: ٤٤٤٣، والطبرانی فی المعجم الكبير، ١٦٧/١٠، الرقم: ١٠٣٤٣۔

النَّبِيُّ ﷺ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَطْلَعَ أَبُو بَكْرٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالحاكِمُ، وَقَالَ الْحاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رض سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (ابھی) اہل جنت میں سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رض نمودار ہوئے، آپ نے سلام کیا اور پیٹھ گئے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

٤٣٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أُنْظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَوْلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالحاكِمُ .

”حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت جبرائیل عليه السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت (جنت میں) داخل ہو گی۔ حضرت ابو بکر رض نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

٤٣: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ فِي السِّنْنِ، كِتَابُ السِّنَنِ، بَابُ الْخَلْفَاءِ، ٢١٣/٤، الرَّقمُ: ٤٦٥٢، وَالحاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ، ٧٧/٣، الرَّقمُ: ٤٤٤٤، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجمِ الْأَوْسَطِ، ٩٣/٣، الرَّقمُ: ٢٥٩٤ -

نے فرمایا: یقیناً تم تو میری امت کے پہلے شخص ہو جو جنت میں اُس دروازہ سے داخل ہو گا۔، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٤٤۔ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَيْقِ مِنَ النَّارِ فَلَيُنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأَنَّ اسْمَهُ الَّذِي سَمَّاهُ أَهْلُهُ لَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ عَمْرٍو حَيْثُ وُلِدَ فَغَلَبَ عَلَيْهِ اسْمُ عَيْقِ. رَوَاهُ الْحَاكَمُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْطَّبَرَانِيُّ.

”اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جسے آگ سے آزاد (محفوظ) شخص دیکھنا پسند ہو وہ ابو بکر ﷺ کو دیکھ لے اور آپ ﷺ کا نام ولادت کے وقت آپ کے گھر والوں نے عبد اللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو رکھا تھا، پھر اس پر عیق کا لقب غالب آگیا۔“

اس حدیث کو امام حاکم، ابو یعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤٤: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٦٤/٣، الرقم، ٤٤٠٤، وأبو يعلى في المسند، ٣٠٢/٨، الرقم: ٤٨٩٩، و الطبراني في المعجم الكبير، ٥٤/١، الرقم: ١٠٤۔

٧. فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ

﴿حضرت صدیق اکبر ﷺ کی جامع صفات اور مناقب کا بیان﴾

٤٥/٩٢. عن أبي سعيد قال: قال: رسول الله ﷺ: إِنَّ أَمَنَ النَّاسُ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُوبَكْرٌ. مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور تم نہیں کا بھی۔“
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٤٦/٩٣. عن أبي سعيد أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبُرِ

٤٥: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: الخوخة والممر فى المسجد، ١٧٧/١، الرقم: ٤٥٤، وكتاب: فضائل أصحاب النبي، باب: من فضائل أبي بكر ١٣٣٧/٣، الرقم: ٣٤٥٤، ومسلم فى الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر ١٨٥٤/٤، الرقم: ٢٣٨٢، والترمذى فى السنن، كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي بكر ٦٠٨/٥، الرقم: ٣٦٦٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، ١٨/٣، الرقم:

٤٦/١١٥٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: الخوخة والممر فى المسجد، ١٧٧/١، الرقم: ٤٥٤، وكتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ، سُدُّوا الأبواب إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ، ١٤١٧/٣، الرقم: ٣٦٩١، ومسلم فى الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق، ١٨٥٤/٤، الرقم: ٢٣٨٢، والترمذى فى السنن، كتاب: —

فَقَالَ: لَا يُعْقِيْنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةً إِلَّا خَوْخَةً أَبِي بَكْرٍ . مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ منبر پر جلوہ افرزو ہوئے اور فرمایا: مسجد میں کسی کی کھڑکی باقی نہ رہنے والی جائے مگر ابوبکرؓ کے گھر کی کھڑکی قائم رکھی جائے۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٤٧/٩٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُوبَكْرٌ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيِ ثُوْبِيِ يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَااهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے کپڑے کو تکبر کرتے ہوئے گھٹیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر (صدیقؓ) نے عرض کیا۔ میرے کپڑے کا ایک کونہ عموماً لٹک جاتا ہے سوائے اس صورت کے کہ میں اس کی احتیاط کروں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم ایسا ازراہ تکبر نہیں کرتے۔“

اس حدیث کو امام بخاری اورنسائی نے روایت کیا ہے۔

..... المناقب، باب: مناقب أبي بكر الصديق ﷺ، الرقم: ٣٦٦٠۔

٤٧: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: فضائل أصحاب النبي، باب: من فضائل أبي بكر الصديق، ٣/٢٤٠، الرقم: ٣٤٦٥، والبيهقي في السنن، كتاب: الزينة، باب: إسبال الإزار، ٨/٢٨١، الرقم: ٤٧٤٥، والنمسائي في الصحيح، ١٢/٦٢، الرقم: ٤٤٥٤۔

٤٨/٩٥ عن ابن عباس خرج رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه في خروقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إله ليس أحد أمن على في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة. رواه البخاري والنسائي.

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے مرض وصال میں (حجہ مبارک سے) باہر تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے اپنا سر انور کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا۔ پس آپ ﷺ منبر مبارک پر جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و شنبیان کی پھر فرمایا: اپنی جان و مال (قربان کرنے) کے اعتبار سے ابوکرا بن ابی قحافہ سے بڑھ کر مجھ پر زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں۔“

اس حدیث کو امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

٤٩/٩٦ عن عليٰ قال: قال رسول الله ﷺ: رَحْمَ اللَّهُ أَبَابُكُرٍ، زَوْجَنِي الْبَشَّةُ، وَ حَمَلْنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ، وَ أَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ. رواه الترمذی وأبو يعلى.

٤٨: آخرجه البخاری فی الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: الخوخة والممر فی المسجد، ١/١٧٨، الرقم: ٤٥٥، و النسائی فی السنن الكبرى، ٣٥/٥، الرقم: ٨١٠٢، وأحمد بن حنبل فی المسند، ١/٧٧٠، الرقم: ٢٤٣٢، و ابن حبان فی الصحيح /١٥، ٢٧٥، الرقم: ٦٨٦٠.

٤٩: آخرجه الترمذی فی السنن، كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب رض، ٥/٦٣٣، الرقم: ٣٧١٤، وأبو يعلى فی المسند، ١/٤١٨، الرقم: ٥٥٠، و الطبراني فی المعجم الأوسط، ٦/٩٥، الرقم: ٥٩٠٦، و ابن أبي عاصم فی السنن، ٢/٥٧٧، الرقم: ١٢٣٢۔

”حضرت علیؐ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے انہوں نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، مجھے اٹھا کر دار الجھر (مدینہ) لے گئے اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کروایا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو یعلیؑ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأَبِيهِ
بَكْرِ الصَّدِيقِ: يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالحاكمُ.

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کہا: اے رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے بہتر انسان۔“ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَأَحِدٍ
عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَفْنَاهُ، مَا خَلَّ أَبَابُكُرٍ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِفُهُ اللَّهُ
بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جس کا ہم نے بدلہ چکا نہ دیا ہو، سو اے ابو بکرؓ

۵۰: آخر جه الترمذی فی السنن، کتاب: المناقب، باب: فی مناقب عمر بن الخطاب، ۶۱۸/۵، الرقم: ۳۶۸۴، و الحاکم فی المستدرک، ۹۶/۳، الرقم: ۴۵۰۸۔

۵۱: آخر جه الترمذی فی السنن، کتاب: المناقب، باب: مناقب أبي بكر، ۶۰۹/۵، الرقم: ۳۶۶۱۔

صدق کے۔ بیشک اُن کے ہمارے اوپر احسان ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا۔“ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

۵۲/۹۹ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو قَحَافَةَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَرَاكَ قَوْمًا رِقَابًا ضِعَافًا، فَلَوْ أَنَّكَ إِذْ فَعَلْتَ أَعْنَقْتَ رِجَالًا جِلْدًا يَمْنَعُونَكَ وَيَقُومُونَ دُونَكَ. فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: يَا أَبَتِ إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ لَمَّا نَزَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِ: ﴿فَآمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى وَ صَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِّيَّسِرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ يَعْلَمُ وَمَا لَا حَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسُوفَ يَرْضَى﴾ [اللیل، ۹۲:۵-۲۱]. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

”حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (حضرت ابو بکر صدیقؓ کے والد) حضرت ابو قحافہ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے ہو۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تن و مند اور قوی غلاموں کو آزاد کرواؤ تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکیں اور تمہاری خاطر رکسکیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا: اے ابا جان میرا مقصد وہ ہے جو ان آیات کا مقصد ہے: ﴿پس جس نے (اپنا مال اللہ کی راہ میں) دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اس نے (انفاق و تقویٰ کے ذریعے) اچھائی (یعنی دین حق اور آخرت) کی تصدیق کی تو ہم عنقریب اسے آسانی (یعنی رضاۓ الہی) کے لئے سہولت فراہم کر دیں گے اور جس نے بخل کیا اور (راہ حق میں مال خرچ کرنے سے) بے پرواہ بہا اور اس نے (یوں) اچھائی (یعنی دین حق اور آخرت) کو جھٹلایا

۵۲: أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِكِ، ۵۷۲/۲، الرَّقْمُ، ۳۹۴۲، وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، ۹۵/۱، الرَّقْمُ: ۶۶۔

توہم عنقریب اسے سختی (یعنی عذاب کی طرف بڑھنے) کے لئے سہولت فراہم کر دیں گے (تاکہ وہ تیزی سے مستحق عذاب ٹھہرے) اور اس کامال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ بلاکت (کے گڑھے) میں گرے گا پیشک راہ (حق) دکھانا ہمارے ذمہ ہے پا اور پیشک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں سو میں نے تمہیں (دوزخ کی) آگ سے ڈرایا ہے جو بھرک رہی ہے جس میں انتہائی بد بخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہو گا جس نے (دین حق کو) جھٹالیا اور (رسول کی اطاعت سے) منه پھیلیا اور اس (آگ) سے اس بڑے پرہیز گار شخص کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال (اللہ کی راہ میں) دیتا ہے کہ (اپنے جان و مال کی) پاکیزگی حاصل کرے اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدله دیا جا رہا ہو۔ مگر (وہ) صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لئے (مال خرچ کر رہا ہے) اور عنقریب وہ (اللہ کی عطا سے اور اللہ اس کی وفا سے) راضی ہو جائے گا۔

اس حدیث کو امام حاکم اور احمد نے روایت کیا ہے نیز امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

٥٣/١٠٠. عَنْ أَسَدِ بْنِ زَرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَالْتَّفَقَتِ التِّفَافَةُ فَلِمْ يَرَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُوبَكْرٌ. أَبُوبَكْرٌ! إِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ جِبْرِيلُ الْكَلِيلُ أَخْبَرَنِي أَنِّفَا إِنَّ خَيْرَ أُمَّتِكَ بَعْدَكَ أَبُوبَكْرٌ الصَّدِيقُ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت اسد بن زرارہ رض سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رض کو نہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا: ابو بکر ابو بکر روح القدس جبرايل صلی اللہ علیہ وسلم

٥٣: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٢٩٢/٦، الرقم: ٦٤٤٨۔

نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میں سے میرے بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۱۰۱/۵۴. عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ فِي السَّمَااءِ يَكْرَهُ أَنْ يَخْطُطَ أَبُوبَكْرٌ فِي الْأَرْضِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو آسمان پر یہ پسند نہیں کرتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زمین پر کوئی خطہ سرزد ہو۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۱۰۲/۵۵. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ قَالَ: لَمَّا احْتَضَرَ أَبُوبَكْرٍ

قال: يا عائشة، انظرِي اللَّقَحَةَ الَّتِي كُنَّا نَشْرَبُ مِنْ لِبِنَهَا، وَالْجَفَنَةَ الَّتِي نَصْطَبُخُ فِيهَا، وَالْقَطِيفَةَ الَّتِي كُنَّا نَلْبُسُهَا، فَإِنَّا كُنَّا نَنْفَعُ بِذَلِكَ حِينَ كُنَّا فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا مِتْ فَارُدُّدِيهِ إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ أَرْسَلَتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ

فَقَالَ عُمَرُ

: رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَغْرَبْتَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آپ نے فرمایا: جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے عائشہ! یہ دودھ دینے والی اونٹی دیکھ لو جس کا ہم دودھ پیتے تھے اور یہ بڑا برتن جس میں ہم کھانا

۵۴: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۶۷/۲۰، الرقم: ۱۲۴۔

۵۵: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۱/۶۰، الرقم: ۳۸، والهشمي في مجمع الزوائد، ۵/۲۳۱۔

پکتے تھے اور یہ کمبل چادر جسے ہم اوڑھتے تھے، ہم ان چیزوں سے نفع حاصل کرنے کے مجاز تھے جب تک ہم مسلمانوں کے امور میں مصروف رہتے تھے۔ پھر جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ سب کچھ حضرت عمر رض کو لوٹا دینا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رض فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ چیزیں حضرت عمر رض کی طرف بھجوادیں۔ اُس وقت حضرت عمر رض نے فرمایا: اے ابو بکر رض! اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ نے اپنے بعد ہر آنے والے کو تھکا دیا ہے (مشکل میں ڈال دیا ہے)۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۵۶/۱۰۳ عن عبیدة قَالَ: جَاءَ عُيِّنَةً بْنُ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

”حضرت عبیدہ رض سے روایت ہے کہ حضرت عینہ بن حصن رض اور اقرع بن حابس رض، سیدنا ابو بکر صدیق رض کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! (اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ)۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔

۵۷/۱۰۴ عن عَلَيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الْأَمَّةِ بَعْدِ نَبِيِّهَا أَبُوبَكْرٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

۵۶: أخرجه الحاكم في المستدرك، ۳/۸۵، الرقم: ۴۴۷۳، و البهقي في السنن الكبرى، ۷/۲۰۔

۵۷: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ۱/۱۰۱، الرقم: ۸۷۹، والطبراني في المعجم الأوسط، ۱/۲۹۸، الرقم: ۹۹۲۔

”حضرت علیؐ نے فرمایا: حضور ﷺ کے بعد اس امت میں سے بہتر ابو بکرؐ ہیں۔“ اس حدیث کو امام احمد بن خبل اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۵۸/۱۰۵. قَالَ عَلَيٌّ وَالزَّيْرُ رضي الله عنهمَا قَالَ: إِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقَ النَّاسِ بِهَا بَعْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، وَ ثَانِي اثْنَيْنِ، وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَ كِبْرِهِ، وَ لَقَدْ أَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَ هُوَ حَيٌّ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالبَيْهَقِيُّ.

”حضرت علیؐ اور حضرت زیر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ بلاشبہ حضرت ابو بکرؑ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں آپ حضور نبی اکرم ﷺ کے غار کے ساتھی ہیں۔ آپ ثانی اثنین (یا گار) ہیں اور ہم آپ کے شرف کو اور آپ کے خیر ہونے کو جانتے ہیں۔ بے شک آپ کو حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں نماز کی امامت کا حکم دیا تھا۔“ اس حدیث کو امام حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

۵۹/۱۰۶. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ أَبُوبَكْرٍ مَعْرُوفًا بِالْتِجَارَةِ. لَقَدْ بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ وَ عِنْدُهُ أَرْبَعُونَ الْفَ دِرْهَمٍ. فَكَانَ يُعْتَقُ مِنْهَا، وَ يُقَوِّيُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ الْقَدِيرَةَ آلَافَ دِرْهَمٍ ثُمَّ، كَانَ يَفْعُلُ فِيهَا مَا كَانَ يَفْعُلُ بِمَكَّةَ. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ.

”حضرت زید بن اسلمؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ مشہور

۵۸: أخرجه الحاكم في المستدرك، ۳/۷۰، الرقم: ۴۴۲۲، والبيهقي في السنن الكبرى، ۸/۱۵۲۔

۵۹: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ۳/۱۷۲، و ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ۳۰/۶۸۔

تاجر تھے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے پاس چالیس ہزار درہم موجود تھے آپ اس رقم سے غلاموں کو آزاد کرواتے اور مسلمانوں کو تقویت پہنچاتے تھے یہاں تک کہ آپ ہجرت کر کے ہزاروں درہموں کے ساتھ مدینہ طیبہ آگئے۔ یہاں بھی آپ کمہ معظمه کی طرح دل کھول کر اسلام پر خرچ کرتے رہے۔

اس حدیث کو امام ابن سعد اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

٦٠٧. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حُبُّ أَبِي بَكْرٍ وَ شُكْرُهُ وَاجِبٌ عَلَى أُمَّتِي. رَوَاهُ الدَّيْلِمِيُّ وَالْخَطِيبُ.

”حضرت سہل بن سعد رض سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابو بکر رض سے محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔“

اس حدیث کو امام دیلمی اور خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے۔

٦١٨. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: رَأَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَ أَنَا أَمْشِي أَمَامَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: لِمَ تَمْشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ؟ إِنَّ أَبَابَكْرٍ خَيْرٌ مِّمَّنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ. رَوَاهُ الدَّيْلِمِيُّ.

”حضرت ابو درداء رض سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے دیکھا کہ میں حضرت ابو بکر رض کے آگے آگے چل رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: تم اُس ہستی کے آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سے بہت بہتر ہے؟ بے شک ابو بکر رض ہر اس شخص سے بہتر ہیں جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔“

اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

٦٠: آخر جه الدیلمی فی مسنند الفردوس، ۲۷۲۴ / ۲، الرقم: ۱۴۲، و الخطیب
فی تاریخ بغداد، ۵ / ۴۵۱۔

٦١: آخر جه الدیلمی فی مسنند الفردوس، ۵ / ۳۵۱۔

الْبَابُ الثَّالِثُ:



www.MinhajBooks.com



www.MinhajBooks.com

۱. فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِسْلَامِهِ

حضرت عمر فاروقؓ کے قبول اسلام کا بیان

۱/۱۰۹ عن ابن عمر أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعِزَّ إِلِيْكَ إِيمَانِيْكَ بِأَحَبِّيْكَ جَهَلِيْكَ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: حضور نبی اکرم ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ! تو اب جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرم۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ کو محبوب حضرت عمرؓ تھے (جن کے بارے میں حضور نبی اکرم ﷺ کی دعا قبول ہوئی اور آپ مشرف بہ اسلام ہوئے)۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱: أخر جه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب: فی مناقب عمر، ۶۱۷/۵
الرقم: ۳۶۸۱، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۹۵/۲، الرقم: ۵۶۹۶، وابن حبان فی الصحيح، ۳۰۵/۱۵، الرقم: ۶۸۸۱، وحاکم فی المستدرک، ۵۷۴/۳، الرقم: ۶۱۲۹، والبزار فی المسند، ۵۷/۶، الرقم: ۲۱۱۹، وعبد بن حميد فی المسند، ۲۴۵/۱، الرقم: ۷۵۹۔

٢/١١٠ . عن ابن عباسٍ قال: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جُرْيِلُ فَقَالَ:
يَا مُحَمَّدُ، لَقَدِ اسْتَبَشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ.
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! تحقیق اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے (اور مبارکبادیں دی ہیں)۔“
اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣/١١١ . عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ رضي اللہ عنہ قَالَ
الْمُشْرِكُونَ: الْيَوْمَ قَدِ انتَصَفَ الْقَوْمُ مِنَّا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ وَالطَّبرَانِيُّ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما میان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے (اور آدمی رہ گئی ہے)۔“

٤: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: فضل عمر، ١/٣٨، الرقم:

١٠٣، وابن حبان في الصحيح، ١٥/٧، الرقم: ٦٨٨٣، والحاكم في المستدرك، ٣/٩٠، الرقم: ٤٤٩١، والطبراني في المعجم الكبير، ١١/٨٠، الرقم: ١١١٠٩، والهيثمي في موارد الظمان، ١/٥٣٥، الرقم:

-٢١٨٢-

٥: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/٩١، الرقم: ٤٤٩٤، والطبراني في المعجم الكبير، ١١/٢٥٥، الرقم: ١١٦٥٩، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ١/٢٤٨، والهيثمي في مجمع الروايات، ٩/٦٢ -

اس حدیث کو امام حاکم، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے نیز امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

٤/١١٢ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ صَدْرَ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَيْدِهِ حِينَ أَسْلَمَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ، أَخْرِجْ مَا فِي صَدْرِهِ مِنْ غَلٍّ وَأَبْدِلْهُ إِيمَانًا. يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا.

**رواه الحاكم و الطبراني، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مستقيم
الإسناد.**

”حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر جب اسلام لائے تو حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ان کے سینے پر تین دفعہ اپنا دست اقدس مارا اور آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یہ فرمارہے تھے اے اللہ! عمر کے سینے میں جو غل (سابقہ عداوت کا اثر) ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان ڈال دے۔ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے یہ کلمات تین مرتبہ دہراتے۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

٥/١١٣ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ

٤: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٩١/٣، الرقم: ٤٤٩٢، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢٠/٢، الرقم: ١٠٩٦، وفي المعجم الكبير، ٣٠٥/١٢، الرقم: ١٣١٩١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٦٥/٩۔

٥: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٩/٦٥، الرقم: ٨٨٢٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٦٢/٩۔

لَفَتْحًا، وَ إِمَارَتُهُ لِرَحْمَةِ وَاللهِ مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُصْلِي بِالْبُيُّوتِ حَتَّى أَسْلَمَ
عُمُرُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ قَابِلَهُمْ حَتَّى دَعُونَا فَصَلَّيْنَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول
اسلام (ہمارے لئے) ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی، خدا کی قسم ہم بیت
اللہ میں نماز پڑھنے کی امکانی نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام
لائے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ انہوں
نے ہمیں چھوڑ دیا تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔“
اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔



www.MinhajBooks.com

٢. فَصْلٌ فِي مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿بَارِكَاهُ رسالتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ﴾

٦/١١٤ عن أنسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ : لَا شَيْئًا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ . قَالَ أَنْسٌ : فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرِحْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ . قَالَ أَنْسٌ : فَإِنَّا أَحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُسْنِ إِيمَانِهِمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ . مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی عرض گزار ہوا: میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: تمہیں آخرت میں اسی کی معیت

٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة باب: مناقب عمر بن الخطاب، ٣٤٩/٣، الرقم: ٣٤٨٥، و مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والأدب، باب: المرأة مع من أحب، ٢٠٣٢/٤، الرقم: ٢٦٣٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢٢٧/٣، الرقم: ١٣٣٩٥، وأبو يعلى في المسند، ١٨٠/٦، الرقم: ٣٤٦٥، و عبد بن حميد في المسند، ٣٩٧/١، الرقم: ١٣٣٩، و المنذر في الترغيب والترهيب، ١٤/٤، ١٥، الرقم: ٤٥٩٤

اور سنگت نصیب ہو گی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی خبر نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے کیا کہ ”تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔“ حضرت انس رض نے کہا: میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے بھی لہذا امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث ان حضرات کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔“

یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٧/١١٥. عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُشَوُّنَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: فَلِمَ يَرْعِنِي إِلَّا بِرَجْلٍ قَدْ أَخْدَأَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي. فَالْتَّفَتَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلَيْ. فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، مِنْكَ. وَأَيُّمُ اللَّهُ، إِنْ كُنْتُ لَأَظُنَّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبِيْكَ وَذَاكَ، أَنِّي كُنْتُ أَكْثُرُ أَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ جِئْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرًا، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرًا وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرًا. فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو، أَوْ لَأَظُنَّ، أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا. مُتَفَقُ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

٧: آخر جه البخارى فى الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ٣٤٨، الرقم: ١٣٤٨، و مسلم فى الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، ٤، الرقم: ١٨٥٨، و أحمد بن حنبل فى المسند، ١١٢، الرقم: ٨٩٨، و الحاكم فى المستدرك، ٣/٧١، الرقم: ٤٤٢٧۔

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب ﷺ کا جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، وہ ان کے حق میں دعا کرتے، تحسین آمیز کلمات کہتے اور جنازہ اٹھائے جانے سے بھی پہلے ان پر صلوٰۃ (یعنی دعا) پڑھ رہے تھے، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، اچانک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے گھبرا کر مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علیؓ تھے، انہوں نے حضرت عمرؓ کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا (اے عمر!) آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو، بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ کر دے گا، کیونکہ میں حضور نبی اکرم ﷺ سے بہ کثرت یہ سنتا تھا، ”میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے“ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو (اسی طرح) آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا۔“

یہ حدیث متفق علیہ ہے اور منکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔

۸/۱۱۶. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَخِذُ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن ہشام ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے اور آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا،“

٨: آخر جه البخاری فی الصحيح، کتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ۱/۳، ۱۳۵۱، الرقم: ۳۴۹۱، و في كتاب: الإسناد، باب: المصادفة، ۵/۱۱۲، الرقم: ۵۹۰۹، و ابن حبان فی الصحيح، ۱/۱۶، الرقم: ۳۵۵۵، و البیهقی فی شعب الإيمان، ۲/۱۳۲، الرقم: ۱۳۸۲ -

اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

١١٧ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأَبِيهِ بَكْرٍ: يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكمُ.

”حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا: اے حضور نبی اکرم ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان! یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ اگر تم نے یہ کہا ہے تو میں نے بھی حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔“ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

١١٨ . عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمَرَةِ فَقَالَ أَيِّ أَخِي: أَشْرِكْنَا فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ ماجَةَ.
وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٩ : أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب: المناقب، باب: فی مناقب عمر، ٦١٨/٥، الرقم: ٣٦٨٤، و الحاکم فی المستدرک، ٣: ٩٦، الرقم: ٤٥٠٨-

١٠ : أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب: الدعوات، باب: فی دعاء النبي ﷺ، ٥٥٩/٥، الرقم: ٣٥٦٢ - و ابن ماجه فی السنن، كتاب: المناسب، باب: فضل دعاء الحاج، ٩٦٦/٢، الرقم: ٢٨٩٤، و البیهقی فی شعب الإيمان، ٦/٥٠٢، الرقم: ٩٠٥٩ -

”حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے انہیں فرمایا: اے میرے بھائی! ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا اور ہمیں نہیں بھولنا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱/۱۱۹. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيْصًا أَبْيَضَ فَقَالَ ثُوبُكَ هَذَا غَسِيْلٌ أَمْ جَدِيْدٌ؟ قَالَ : لَا . بَلْ غَسِيْلُ : قَالَ : الْبَسْ جَدِيْدًا ، وَ عِشْ حَمِيْدًا ، وَ مُتْ شَهِيْدًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ .

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک وفعہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمرؓ کو سفید قمیص زیب تن کئے ہوئے دیکھا تو دریافت فرمایا: (اے عمر) تمہارا یہ قمیص نیا ہے یا پرانا، حضرت عمرؓ نے جواب دیا: یہ پرانا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (اللہ کرے) تم ہمیشہ نیا لباس پہنوا اور پرسکون زندگی بسر کرو اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔“ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔

۱۲/۱۲۰. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَشَامٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَ هُوَ

۱۱: أخرجه أبن ماجة في السنن، كتاب: اللباس، باب: ما يقول الرجل إذا ليس ثوباً جديداً، ۱۱۷۸/۲، الرقم: ۳۵۵۸، وأحمد بن حنبل في المسند، ۸۸/۲، رقم: ۵۶۲۰، والطبراني في المعجم الكبير، ۲۸۳/۱۲، الرقم: ۱۳۱۲۷، وأبو يعلى في المسند، ۴۰۲/۹، رقم: ۵۵۴۵۔

۱۲: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ۳۳۶/۴، والحاكم في المستدرك، ۵۱۶/۳، رقم: ۵۹۲۲، والطبراني في المعجم الأوسط، ۱۰۲/۱، الرقم: ۳۱۷، والبزار في المسند، ۳۸۴/۸، الرقم: ۳۴۵۹۔

آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ: فَإِنَّكَ الآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الآنَ يَا عُمَرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبرَانِيُّ.

”حضرت عبد الله بن هشام فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے اور آپ ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عمر! اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔“ اس حدیث کو امام احمد، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٣. فَصُلُّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ

﴿فَرْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْرَمِي رَبِّي بَعْدَ كَوْنِي نَبِيًّا هُوتَا توْهُ عَمَرُ هُوتَا﴾

۱۲۱/۱۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ.

وَفِي رَوَايَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياءً، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

”حضرت ابو هریرہ رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رض ہے۔“
”اور ایک روایت میں حضرت ابو هریرہ رض سے یہ الفاظ مروی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ اگر ان جیسا میری امت کے اندر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔“ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔“

١٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة باب: مناقب عمر بن الخطاب رض، ١٣٤٩/٣، الرقم: ٣٤٨٦، وفي كتاب: الأنبياء، باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ١٢٧٩/٣، الرقم: ٢٣٨٢، وابن أبي عاصم في السنة، ٥٨٣/٢، الرقم: ١٢٦١۔

١٤/١٢٢ . عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأَمْمَ مَقْبِلُكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ مِنْهُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: تَفْسِيرُ مُحَدَّثُنَ مُلْهَمُونَ.

”حضرت عائشة رضي الله عنها بيان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ فرماتے تھے کہ تم سے پہلی امتوں میں محدثون ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ان میں سے ہے تو وہ عمر بن الخطاب ہے، ابن وهب نے کہا محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس پر الہام کیا جاتا ہو،“ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

١٥/١٢٣ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ مَضَى رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ نُبُوَّةً. فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِنْهُمْ فَعَمَرُ .
رواه ابن أبي شيبة۔

”حضرت ابو ہریرہ رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: سابقہ امتوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو نبوت کی سی باتیں کرتے تھے اور اگر میری امت میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔“ اس حدیث کو امام ابن ابی شيبة نے روایت کیا ہے۔

١٤ : أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، ٤ / ١٨٦٤، الرقم: ٢٣٩٨ ، والترمذى فى السنن، كتاب: المناقب، باب: فى مناقب عمر بن الخطاب، ٥ / ٦٢٢، الرقم: ٣٦٩٣ ، وابن حبان فى الصحيح، ١٥ / ٣١٧ ، الرقم: ٦٨٩٤ ، و الحاكم فى المستدرك، ٣ / ٩٢ ، الرقم: ٤٩٩ ، و النسائي فى السنن الكبرى، ٥ / ٣٩ ، الرقم: ٨١١٩ .

١٥ : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦ / ٣٥٤ ، الرقم: ٣١٩٧٢ .

٤. فَصُلُّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ ظِلِّ عُمَرَ

﴿فَرَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِّكْ شَيْطَانَ عُمَرَ كَمَا يَسَّأَلُهُ﴾

بھی بھاگتا ہے

١٦/١٢٤ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسُوَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمُنَاهُ وَيَسْتَكْثِرُنَاهُ عَالِيَّةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ. فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَمَنَ فَبَادَرَنَ الْحِجَابَ. فَأَدِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِبْتُ مِنْ هُؤُلَاءِ الَّذِي كُنَّ عِنْدِي! فَلَمَّا سَمِعْنَ

١٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ١٣٤٧/٣، الرقم: ٣٤٨٠، وفي كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ١١٩٩/٣، الرقم: ٣١٢٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، ١٨٦٣/٤، الرقم: ٢٣٩٦، والنسائي في السنن الكبرى، ٤١٥، الرقم: ٨١٣٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ١٧١/١، الرقم: ١٤٧٢، والطبراني في المعجم الأوسط، ٣٣٢/٨، الرقم: ٨٧٨٣، وأبويعلى في المسند، ١٣٢/٢، الرقم: ٨١٠۔

صَوْتَكَ ابْنَدْرُنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهْبَنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: يَا عَدُوَاتِ أَنفُسِهِنَّ: أَتَهْبِنَيْ وَلَا تَهْبَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! فَقُلْنَ: نَعَمْ أَنْتَ أَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِبْهَا يَا ابْنَ الْخَطَابِ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لِقِيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَأَ قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجَأَ غَيْرَ فَجَأَكَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت سعد بن أبي وقاص ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضور نبی اکرم ﷺ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور اس وقت آپ ﷺ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی اکرم ﷺ مسکرانے لگے۔ حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں کہ جب انہوں نے تمہاری آوازنی تو پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر ﷺ عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! آپ زیادہ حق دار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں پھر حضرت عمر ﷺ نے فرمایا: اے اپنی جان کی دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور نبی اکرم ﷺ سے نہیں ڈرتیں؟ عورتوں نے جواب دیا: ہاں! آپ حضور نبی اکرم ﷺ کے مقابلہ میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابن خطاب! اس بات کو چھوڑو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

١٢٥ / ١٧ . عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَ ثُجَارِيَّةً سُودَاءً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ يَمِينَ يَدِيْكَ بِالدُّكَّ وَ أَتَغْنِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَ إِلَّا فَلَا. فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُشْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتِ الدُّكَّ تَحْتَ اسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُشْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ، أَلْقَتِ الدُّكَّ. رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

”حضرت بریدہ رض فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاوں گی اور گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اگر تم نے نذر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجا شروع کیا تو حضرت ابو بکر رض آگئے وہ بجائی رہی پھر حضرت علی رض اور حضرت عثمان رض کے آنے پر بھی وہ دف بجائی رہی۔ لیکن اس کے بعد

١٧: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب: فى مناقب عمر،
٥/٦٢٩٠، الرقم: ٣٦٩٠، و الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول فى
أحاديث الرسول، ١/٢٣٠، و العسقلانى فى فتح البارى، ١١/٥٨٨ -

حضرت عمرؓ داخل ہوئے تو وہ دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عمر! تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہی تھی پھر ابو بکر، علی اور عثمان (یکے بعد دیگرے) آئے۔ تب بھی یہ بجائی رہی لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸/۱۲۶ عن عائشة قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَسَمِعَنَا لَغْطًا وَ صَوْتَ صِبَيَانٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا حَبْشِيَّةٌ تَزَفَنُ وَالصِّبَيَانُ حَوْلَهَا فَقَالَ: يَا عَائِشَةً، تَعَالَى فَانُظُرِي فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَ عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْتُ أَنْظُرِ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ لِي: أَمَا شَبِيعَتِ، أَمَا شَبِيعَتِ. قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَا لَانْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ، إِذْ طَلَعَ عُمَرُ قَالَتْ: فَارْفَضْ النَّاسُ عَنْهَا. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَانْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ فَدُ فَرُوا مِنْ عُمَرَ. قَالَتْ: فَرَجَعْتُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ صَحِحُ.

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ تشریف فرماتھے اتنے میں ہم نے شور و غل اور بچوں کی آواز سنی۔ آپ ﷺ کھڑے

۱۸: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: المناقب، باب: فى مناقب عمر،
٥/٦٢١، الرقم: ٣٦٩١، والنسائى فى السنن الكبيرى، ٣٠/٩، الرقم:
٨٩٥٧، والعسقلانى فى فتح البارى، ٤٤٤/٢، وإبراهيم حسينى فى
البيان والتعریف، ٢٨٢/١، والمناوی فى فيض القدير، ١٢/٣۔

ہوئے تو دیکھا کہ ایک جبشی عورت ناج رہی ہے اور پچھے اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ آؤ دیکھو! میں گئی اور ٹھوڑی حضور نبی اکرم ﷺ کے مبارک کندھے پر رکھ کر آپ ﷺ کے کندھے اور سر کے درمیان سے دیکھنے لگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ ﷺ کے نزدیک میری کیا قدر و منزلت ہے؟ لہذا میں نے عرض کیا: ”نہیں“ اتنے میں حضرت عمر رض آگئے اور انہیں دیکھتے ہی سب لوگ بھاگ گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جن و انس عمر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر میں لوٹ آئی۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

١٢٧. عَنْ سُدِّيْسَةَ مَوْلَةِ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمْ يُلْقِ عُمَرَ مُنْذَ أَسْلَمَ إِلَّا خَرَّ لِوْجَهِهِ.
رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

”حضرت سدیسہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ ہیں بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے شیاطین ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہے۔

: ۱۹ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۲۴ / ۵۰۰، الرقم: ۷۷۴، والديلمي في مسنده الفردوس، ۲ / ۳۸۰، الرقم: ۳۶۹۳، و لهيسي في مجمع الزوائد، ۹ / ۷۰، و المناوى في فيض القدير، ۲ / ۳۵۲۔

٥. فَصْلٌ فِي تَبْشِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِالْجَنَّةِ

﴿ حضور ﷺ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دینا ﴾

٢٠٨ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرُأًا تَوَضَّأَ إِلَيْيَّ جَانِبٌ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ عَيْرَتَهُ، فَوَلََّتْ مُدْبِرًا، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعْلَيْكَ أَغَارٌ يَارَسُولَ اللَّهِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں پایا وہاں میں نے ایک محل کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا عمر کا۔ پس مجھے ان کی غیرت یاد آگئی۔ اس لئے میں اللہ پاؤں لوٹ آیا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگے اور عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٠ : أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ٣٤٦ / ٣، الرقم: ٣٤٧٧، وفي كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء فى صفة الجنّة، ١١٨٥ / ٣، الرقم: ٣٠٧٠، وفي كتاب: النكاح، باب: الغيرة، ٤ / ٢٠٠، الرقم: ٤٩٢٩، و مسلم فى الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، ١٨٦٣ / ٤، الرقم: ٢٣٩٥، و النسائي فى السنن الكبرى، ٤١ / ٥، الرقم: ٨١٢٩، و ابن حبان فى الصحيح، ٣١١ / ١٥، الرقم: ٦٨٨٨ -

٢١/١٢٩ . عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا أَوْ قَصْرًا فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَبَكَى عُمَرُ وَ قَالَ: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ عَلَيْكَ يُغَارُ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

”حضرت جابر^{رض} بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا میں نے وہاں ایک گھر یا محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ حاضرین نے کہا یہ عمر بن الخطاب کا محل ہے میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی۔ حضرت عمر رض رونے لگے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ پر بھی غیرت کی جا سکتی ہے؟“ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

٢٢/١٣٠ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِي نَفْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: عَشْرَةً فِي الْجَنَّةِ أَبُوبَكْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُشَّمَانُ وَ عَلِيٌّ الحدیث .

رواهہ الترمذی و النساءی .

٢١: آخرجه مسلم فی الصحيح، کتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، ٤/١٨٦٢، الرقم: ٣٩٤ -

٢٢: آخرجه الترمذی فی السنن، کتاب: المناقب، باب: مناقب عبدالرحمن بن عوف، ٥/٦٤٨، الرقم: ٣٧٤٨، و النساءی فی السنن الكبرى، ٥/٥٦، الرقم: ٨١٩٥، و فی فضائل الصحابة، ١/٢٨، الرقم: ٩٢، والحاکم فی المستدرک، ٣/٤٩٨، الرقم: ٥٨٥٨، وابن أبي شيبة فی المصنف، ٦/٣٥٠، الرقم: ٣١٩٤٦ -

”حضرت عبد الرحمن بن حميد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید ﷺ نے ایک مجلس میں اسے یہ حدیث بیان کی کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: دس آدمی جنتی ہیں: ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں اور، علی جنتی ہیں، آگے طویل حدیث ہے۔“ اس حدیث کو امام ترمذی اورنسائی نے روایت کیا ہے۔

٢٣١. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ: أَنَّهُ قَالَ: إِشْهَدْ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ آتَهُمْ. قِيلَ وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِرَاءَ فَقَالَ: اتَّبِعْ حِرَاءً، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ. قِيلَ وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأُبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبُرُ وَسَعْدُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قِيلَ فَمَنِ الْعَاشِرُ؟ قَالَ: أَنَا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

”حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ﷺ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نو آدمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اور اگر میں دسویں آدمی کے بارے میں بھی گواہی دوں تو گناہ گار نہ ہوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا: ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ کوہ حراء پر تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اے حراء ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون تھے؟ فرمایا: حضور نبی اکرم ﷺ، حضرت

٢٣: آخر جه الترمذی فی السنن، کتاب: المناقب، باب: مناقب سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ﷺ: ٦٥١ / ٥، الرقم: ٣٧٥٧، والنمسائی فی السنن الکبری، ٥٥ / ٥، الرقم: ٨١٩٠، والحاکم فی المستدرک، ٥٠٩ / ٣، الرقم: ٥٨٩٨۔

ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھا گیا دسوال کون تھا؟ فرمایا: میں تھا۔“
اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

٢٤/۱۳۲ . عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ، وَأَوَّلُ مَنْ يُسْلِمُ عَلَيْهِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَاخُذُ بِيَدِهِ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْحَاكَمُ.

”حضرت ابی بن کعب ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر ہے۔“ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٢٥/۱۳۳ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ: مَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الْيُومَ جَنَازَةً؟ قَالَ عُمَرُ: أَنَا. قَالَ: مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا؟ قَالَ عُمَرُ: أَنَا. قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ؟ قَالَ عُمَرُ: أَنَا.

٢٤: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: فضل عمر، ٣٩/١، الرقم: ٤٠٤، والحاكم في المستدرك، ٩٠/٣، الرقم: ٤٤٨٩، والطبراني في المعجم الأوسط ، ٣٦٩/٥، الرقم: ٥٥٨٤، والديلمي في مسنند الفردوس، ٢٥/٣٦، الرقم: ٣٦-

٢٥: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١٨/٣، ١٢٢٠٢، و ابن أبي شيبة في المصنف، ٤٤٤/٢، الرقم: ١٠٨٤٤، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٦٣/٣ -

فَالَّذِي قَالَ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا؟ قَالَ عُمَرُ: أَنَا. قَالَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْعَةَ.

”حضرت انس بن مالکؓ نے کہا کہ ایک دن حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ سے پوچھا: آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا: میں نے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آج کس نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہے؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا: میں نے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمرؓ نے عرض گزار ہوئے: میں نے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آج کون روزے سے رہا؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا: میں۔ آپ ﷺ نے فرمایا (عمر کے لئے جنت) واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔“ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٤/١٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سِرَاجٌ أَهْلُ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ أَبُو نُعِيمٍ وَالدَّيْلَمِيُّ.

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔“ اس حدیث کو امام ابو نعیم اور دیلمی نے روایت کیا ہے۔

٦. فَصْلٌ فِي مَا وَرَدَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مِنْ

مُوَافَقَتِهِ لِلْوَحْيِ

﴿ حَضَرَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرَائِيْكَ رَأَيَّهُ كَمَطَابِقِ نَزْوِلِ وَجِيلِيْهِ كَبَيَانِ ﴾

٢٧/١٣٥ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَمَّا تُؤْفَى جَاءَ ابْنُهُ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفِنَهُ فِيهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَقَالَ: آذِنِي أَصْلِي عَلَيْهِ فَآذَنَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصْلِيَ عَلَيْهِ جَذْبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلِيسْ

٢٧: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في القميص الذي يكف أولاً يكف، ٤٢٧/١، الرقم: ١٢١٠، وفي كتاب تفسير القرآن، باب: قوله: استغفروهم أولاً تستغفروهم إن تستغفروهم سبعين مرة، ٤/١٧١٥، الرقم: ٤٣٩٣، ٤٣٩٥، وفي كتاب: اللباس ، باب: لبس القميص، ٤/٥، ٢١٨٤، الرقم: ٥٤٦٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر رضي الله عنه، ٤/١٨٦٥، الرقم: ٢٤٠٠، وفي كتاب: صفات المناقفين و أحكامهم، ٤/٤، ٢١٤١، الرقم: ٢٧٧٤، و الترمذى في السنن، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم، باب: ومن سورة التوبة، ٥/٢٧٩، الرقم: ٣٠٩٨، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنثائي في السنن، كتاب: الجنائز، باب: القميص في الكفن، ٤/٣٦، الرقم: ١٩٠٠، وابن ماجة في السنن، كتاب: الجنائز، باب: في الصلاة على أهل القبلة، ١/٤٨٧، الرقم: ١٥٢٣ - ١٥٢٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/١٦١، الرقم: ٩٥، وابن حبان في الصحيح، ٧/٤٤٧، الرقم: ٣١٧٥ -

اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ قَالَ: ﴿إِسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾، [التوبه، ٩: ٨٠]، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَزَرَكَ: ﴿وَلَا تُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبه، ٩: ٨٤]. وَ فِي رَوَايَةِ زَادِ: قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ. مُنْفَقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ! مجھے اپنی قیص مبارک عطا فرمائیں کہ اس کا میں اپنے باپ کو فن پہنا سکوں اور اس پر نمازِ جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لئے دعائے مغفرت بھی فرمائیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اسے اپنی قیص عطا فرمادی اور فرمایا کہ مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں اس پر نمازِ جنازہ پڑھوں سو آپ ﷺ کو اطلاع دے دی گئی۔ جب آپ ﷺ نے اس پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو روکا اور عرض گزار ہوئے: اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے معن نہیں فرمایا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اُن کے لئے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں اگر آپ ستر مرتبہ اُن کے لئے دعائے مغفرت کریں تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشنے گا“، سو پس آپ ﷺ نے اس پر نماز پڑھی تو وہی نازل ہوئی: ”اُن میں سے کسی پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ ہی کسی کی قبر پر کھڑے ہونا۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٨/١٣٦ . عَنْ أَنَّسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَأَفْقُثْ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ:

٢٨: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القبلة ١٥٧/١، الرقم: ٣٩٣، وفي كتاب: التفسير، باب: و قوله: و اتخذوا من —

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَتَخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَنَزَلْتُ: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ وَآيَةُ الْحِجَابِ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْرَتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجُورُ، فَنَزَلْتُ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ الْبَيْتِ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقْنَ أَنْ يُدِلَّهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ فَنَزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ.

”حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! کاش! ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں تو حکم نازل ہوا۔“ (اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ) اور پردے کی آیت، میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں تو پردے کی آیت نازل ہوئی اور حضور نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات نے رشک کے باعث آپ ﷺ پر دباؤ ڈالا تو میں نے ان سے کہا۔ ”اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں اور یہویاں عطا فرمادے جو اسلام میں آپ سے بہتر ہوں۔“ تو یہی آیت نازل ہوئی۔“ اس حدیث کو لام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٢٩/١٣٧. عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَاقْفُتْ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ:

..... مقام ابراہیم مصلی، ٤/٤٦٢٩، الرقم: ٤٢١٣، و ابن حبان في الصحيح،

١٥/٣١٩، الرقم: ٦٨٩٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٢٣، الرقم:

- ٢١٥، و سعید بن منصور في السنن، ٢/٦٠٧، الرقم: ١٥٧

٢٩: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، ٤/١٨٦٥، الرقم: ٢٣٩٩، و الطبراني في المعجم الأوسط، ٦/٩٢، ٩٣، ٩٣، الرقم: ٤

فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ، وَفِي أَسَارِي بَدْرٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

”حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيانً كرتة هن كحضرت عمر رضي الله عنهما فرمى:

ميرے رب نے تین امور میں میری موافقت فرمائی: مقام ابراهیم میں (وجوب) حجاب میں اور بدر کے قیدیوں میں (تین کا ذکر شہرت کے اعتبار سے ہے ورنہ ان آیات کی تعداد زیادہ ہے)۔“ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

٣٠/١٣٨. عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ (وَفِي رِوَايَةِ وَضَعَ الْحَقَّ) عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ. وَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ رضي الله عنهمَا: مَا نَزَّلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ: وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ أَوْفَالَ أَبْنُ الْخَطَابِ فِيهِ، (شَكَّ خَارِجَةً) إِلَّا نَزَّلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِي مَا قَالَ أَبْنُ عُمَرَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

”حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم رضي الله عنهما نے

الرقم: ٥٨٩٦، وابن أبي عاصم في السنن، ٥٨٦/٢، الرقم: ١٢٧٦ -

٣٠: أخرجه الترمذى في السنن ، كتاب: المناقب عن رسول الله مصلى الله عليه وسلم ، باب: في مناقب عمر بن الخطاب ٦١٧/٥ ، الرقم: ٣٦٨٢ ، أبو داود في السنن ، كتاب: الخراج والإماراة والفيء ، باب: في تدوين العطاء ، ١٣٨/٣ ، الرقم: ٢٩٦٢ ، ٢٩٦١ ، وابن ماجة في السنن ، المقدمة ، باب: في فضائل أصحاب رسول الله مصلى الله عليه وسلم ، ٤٠/١ ، الرقم: ١٠٨ ، وأحمد بن حنبل في المسند ، ٥٣/٢ ، ٥١٤٥ ، وابن حبان في الصحيح ، ٣١٢/١٥ ، الرقم: ٦٨٨٩ ، والحاكم في المستدرك ، ٩٣/٣ ، الرقم: ٤٥٠١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ، ٢٩٥/٦ ، الرقم: ١٢٥٠٣ -

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب کبھی لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور لوگوں نے اس میں بات کی اور حضرت عمر رض نے بھی اس مسئلہ پر کچھ کہا تو قرآن حکیم عمر فاروق رض کے قول کے موافق نازل ہوا۔“

اسے امام ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا ہے نیز امام ترمذی اور حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

٣١/١٣٩ عنْ عَمَرِ بْنِ شُرْجِيلٍ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ، بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانٌ شِفَاءٌ فَنَزَّلَتْ إِلَيْنَا فِي الْبُقْرَةِ: 《بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ》 [البقرة، ٢: ٢١٩]، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقَرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ، بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانٌ شِفَاءٌ فَنَزَّلَتْ إِلَيْنَا فِي النِّسَاءِ: 《يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى》 [النساء، ٤: ٤٣]، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقَرِئَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانٌ شِفَاءٌ فَنَزَّلَتْ إِلَيْنَا فِي الْمَائِدَةِ: 《إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ

٣١: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب: تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب: ومن سورة المائدۃ، ٥/٢٥٣، الرقم: ٣٠٤٩، وأبو داود في السنن، كتاب: الأشربة، باب: في تحريم الخمر، ٣/٣٢٥، الرقم: ٣٦٧٠، والنسائي في السنن، كتاب: الأشربة، باب: تحريم الخمر، ٨/٢٨٦، الرقم: ٥٥٤، وفي السنن الكبرى، ٣/٢٠٢، الرقم: ٤٩٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٥٣، الرقم: ٣٧٨، والحاکم في المستدرک، ٢/٣٠٥، الرقم: ١٥٩/٤، ٣١٠١، الرقم: ٧٢٢٤، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/١٤٦٤، الرقم: ٨/٢٨٥.

يُوقَعَ بَيْنُكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴿ إِلَى قَوْلِهِ: ﴾فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴿، [المائدة، ٥: ٩١]، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: انتَهِيَّناً انتَهِيَّناً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاؤُدَ وَالسَّائِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُّ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ.

”حضرت عمرو بن شرحبيل ابو ميسرة، عمر بن خطابؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: اے اللہ! شراب کے معاملہ میں ہمارے لئے شافی و کافی حکم نازل فرماء تو وہ آیت اتری جو سورہ بقرہ میں ہے: ”آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں۔“ پس حضرت عمرؓ کو بلایا گیا اور اس آیت کی تلاوت کی گئی، انہوں نے پھر کہا: اے اللہ! شراب کے معاملہ میں ہمارے لئے شافی و کافی حکم نازل فرماء تو وہ آیت اتری جو سورہ النساء میں ہے: ”اے ایمان والو! تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔“ پس حضرت عمرؓ کو بلایا گیا اور ان پر یہ آیت پڑھی گئی آپؓ نے پھر کہا: اے اللہ! شراب کے معاملہ میں ہمارے شافی و کافی حکم نازل فرماء، پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ مائدہ میں ہے: ”شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم (ان شر انگیز باتوں سے) بازاً گے؟“ پس حضرت عمرؓ کو بلایا گیا اور ان پر یہ آیت تلاوت کی گئی تو وہ کہنے لگے (اے اللہ!) ہم بازاً گئے ہم بازاً گئے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور امام حاکم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح الائسانہ ہے۔

٣٢/١٤٠. عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍؓ فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةٍ: قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ

٣٢: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/٦٢٤، الرقم: ٢٢١٧٧، والحاكم -

فَدَأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ مِنْ حُرَّةٍ بَعْدَ مَا نَامَ وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَحِلٌّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ طِّيلٌ قَوْلِهِ: «ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْأَيْلَلِ»، [البقرة، ٢: ١٨٧].

”حضرت معاذ بن جبل ﷺ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے سو کراٹھنے کے بعد اپنی بیویوں، لوٹڈی یا آزاد عورت میں سے کسی کے ساتھ شب باسی کی اور پھر حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر یہ بیان بھی کر دیا تو اللہ عزیز نے یہ آیت نازل فرمائی: ”تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔“ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک ”پھر روزہ رات (کی آمد) تک پورا کرو۔“

اسے امام احمد اور حاکم نے روایت کیا نیز امام حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کی صحت ہے۔

٣٣/١٤١. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا كَانَ نَبِيٌّ قُطُّ إِلَّا فِي أُمَّتِهِ مُعَلِّمٌ أَوْ مُعْلِمًا وَ إِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَهُوَ عُمَرُ بْنُ

..... في المستدرك، ٢/٣٠٨٥، الرقم: ٣٠٨٥، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ١/٢١٥، والعظيم آبادي في عون المعبد، ٢١٥/٢.

٣٣: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ٢/٥٨٣، الرقم: ١٢٦٢، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩٦/٩، الرقم: ٩١٣٧، وابن سعد في الطبقات، ٢/٣٣٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ٤/٩٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/٦٧۔

الخطاب. إِنَّ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهِ.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَ الطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس میں امت میں ایک یا دو معلم (لوگوں کو احکام شریعت سکھانے والے) نہ ہوں اور اگر ان میں سے میری امت میں کوئی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہے۔ بے شک حق عمر کی زبان اور دل پر بولتا ہے“

اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور الفاظ امام طبرانی کے ہیں۔

٣٤/٤٢. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا رَأَى الرَّأْيَ نَزَلَ بِهِ
الْقُرْآنُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت مجاهد رض بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رض جب کوئی رائے دینے تو اس کے مطابق قرآن نازل ہوتا۔“ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٣٥/٤٣. عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيٍّ قَوْلُ عُمَرَ قَدْ أَلْقَى
فِي رَوْعِيِّ أَنْكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُ الْعُدُوَّ هَزِمْتُمُوهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا كُنَّا نُبَعِّدُ أَنَّ
السَّكِينَةَ تَنْطِقُ بِلِسَانِ عُمَرَ وَ أَنَّ فِي الْقُرْآنِ لَرَأِيًّا مِنْ رَأْيِ عُمَرَ.
رواهُ ابْنُ عَسَّاكِرٍ وَ السَّيُوطِيُّ.

٣٤: آخر جهہ ابن ابی شیبہ فی المصنف، ٣٥٤/٦، الرقم: ٣١٩٨٠.

٣٥: آخر جهہ ابن عساکر فی تاریخ دمشق الكبير، ٤/٩٥، والسيوطی فی تاریخ الخلفاء، ١/١٢٢.

”امام شعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے ہاں حضرت عمرؓ کا یہ قول کہ ”البتہ میرے دل میں یہ القاء کیا گیا ہے کہ جب تمہارا سامنا تمہارے دشمن سے ہو گا تو تم اسے شکست دے دو گے۔“ بیان کیا گیا تو حضرت علیؓ نے فرمایا: ہم اس چیز کو محال نہیں سمجھتے تھے کہ بے شک حضرت سیکنہ عمر کی زبان سے بولتا ہے اور بے شک قرآن میں ضرور بااضرور حضرت عمر کی آراء میں سے بعض ہیں۔“

اس حدیث کو امام ابن عساکر اور امام سیوطی نے روایت کیا ہے۔


٣٦/١٤٤ عن أنسٍ قال: قال عمرٌ يعني ابن الخطابِ وافق ربي في أربع نزلت هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾، [المؤمنون، ٢٣: ١٢]، قلت أنا: فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فَنَزَلت: ﴿فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾، [المؤمنون، ٢٣: ١٤]. رواه ابن أبي حاتمٍ و القرطبيٍّ و ابن كثيرٍ و اللفظ له.

”حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا: چار چیزوں میں میرے رب نے میری موافقت میں آیات اتاریں (ان میں سے ایک یہ ہے کہ) جب یہ آیت مبارکہ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ اور تحقیق ہم نے انسان کی تخلیق (کی ابتداء) مٹی (کے کیمیائی اجزاء) کے خلاصہ سے فرمائی“ نازل ہوئی تو میں نے کہا: پس اللہ تعالیٰ برکت والا ہے جو سب سے بہتر خلقت کرنے والا ہے تو

٣٦: أخرجه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ١١٢/٢، ٢٢٧/١٤، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٢٤٢/٣، والسيوطى في الدر المنثور، ٦/٩٤، وقال: أخرجه الطيالسى، وابن أبي حاتم وابن مردوية و ابن عساکر، وفي الإتقان، ١/١٠١، وفي لباب النقول، ١/١٥١، وفي تاريخ الخلفاء، ١/١٢٣، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم، ٦/٢٧۔

یہ اس کی موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی: ”پھر (اس) اللہ نے (اسے) بڑھا (کر مکم وجود بنا) دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔“

اس حدیث کو امام ابن ابو حاتم، قرطبی اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ بھی انہی کے ہیں۔



www.MinhajBooks.com

٧. فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ

حضرت عمر رضي الله عنه کی جامع صفات اور مناقب کا بیان

٤٥/٣٧. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلوات الله عليه وسلم قَالَ: أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنْرِعُ بَدْلُو بَكَرَةً عَلَى قَلِيلٍ. فَجَاءَ أَبُوبَكْرٍ، فَنَزَعَ ذُنُوبًا أَوْ ذُنُوبِينَ نَزْعًا ضَعِيفًا. وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ. ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَقْرِي فَرِيهً، حَتَّى رَوَى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ. مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلوات الله عليه وسلم نے فرمایا: خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ایک کنوں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا ہوں جس پر چینی لگی ہوئی ہے، پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یادو ڈول نکالے لیکن انہیں کچھ مشکل پیش آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ (مراد، ان کے دور خلافت کی مشکلات ہیں جو آپ صلوات الله عليه وسلم نے مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعاں نبوت کے فتنوں کو کھلنے میں اٹھائے۔ آپ کا پورا اڑھائی سالہ دور انہی مشکلات سے نبرد آزمائی میں

٣٧: أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي الصَّحِيفَ، كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، الرَّقمُ: ١٣٤٧/٣، وَ مُسْلِمُ فِي الصَّحِيفَ، كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ، الرَّقمُ: ١٨٦٢/٤، وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ٣٩/٢، الرَّقمُ: ٤٩٧٢، وَ ابْنُ أَبِي شِبَابَةِ فِي الْمُصْنَفِ، ٣٥٣، ١٧٧/٦، الرَّقمُ: ٣٠٤٨٥، ٣١٩٦٩، وَ أَبُو يَعْلَى فِي الْمُسْنَدِ، ٣٨٧/٩، الرَّقمُ: ٥٥١٤۔

گزرا) ان کے بعد عمر بن خطاب آئے تو وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا اور میں نے کسی بھی جوان مرد کو اس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ تمام لوگ خود بھی سیراب ہوئے اور جانوروں کو بھی سیراب کر کے ان کے ٹھکانوں پر لے گئے۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٤٦/٣٨. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، شَرِبْتُ يَعْنِي الْبَيْنَ حَتَّى أَنْظَرَ إِلَيَّ الرِّيْقَ يَجْرِي فِي ظُفُرِيْرِيْ أَوْ فِي أَطْفَارِيْرِيْ ثُمَّ نَأْوَلْتُ عُمَرَ. فَقَالُوا: فَمَا أَوْلَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعِلْمُ. مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ دورانِ خواب میں نے اتنا دودھ پیا کہ جس کی تازگی میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے لگی، پھر بچا ہوا میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے مراد علم (نبوت کا حصہ) ہے۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٤٧/٣٩. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٣٨: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة باب: مناقب عمر بن الخطاب، ٣٤٦، الرقم: ٣٤٧٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، ٤/١٨٥٩، الرقم: ٢٣٩١ والدارمي في السنن، كتاب: الرؤيا، باب: في القمح والبتر واللبن، ٢١٥٤، الرقم: ٦/١٧٩، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/١٧١، الرقم: ٤٩٢-

٣٩: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: تفاصيل أهل الإيمان في الأعمال، ١٧/١، الرقم: ٢٣، وفي كتاب: فضائل الصحابة، باب:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَا مَا يَيْلَغُ
الشَّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَيْلَغُ دُونَ ذَلِكَ . وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَالُوا: مَاذَا أَوْلَتْ ذَلِكَ؟ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:
الدِّينَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالترْمذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

”حضرت ابوسعید خدری رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ دورانِ خواب میں نے دیکھا کہ مجھ پر لوگ پیش کئے جا رہے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے قمیص پہنی ہوئی ہیں بعض کی قمیص سینے تک تھیں اور بعض لوگوں کی اس سے بھی کم، اور میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا۔ ان پر ایک ایسی قمیص تھی جسے وہ گھسیٹ رہے تھے، حضرت ابوسعید خدری رض بیان کرتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی تعبیر دین ہے۔“ اس حدیث کو امام بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

٤٠ / ٤٠ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُنِي أَبْنُ عُمَرَ

..... مناقب عمر، ١٣٤٩/٣، الرقم: ٣٤٨٨، و مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، ١٨٥٩/٤، الرقم: ٢٣٩٠، و الترمذی فی السنن، كتاب: الرویاء عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، باب: فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٥٣٩/٤، الرقم: ٢٢٨٥، و النسائی فی السنن، كتاب: الإيمان و شرائعه، باب: زيادة الإيمان، ١١٣/٨، الرقم: ٥٠٤، و الدارمي في السنن، كتاب: الرؤیاء، باب: فی القمح و البیر، ١٧٠/٢، الرقم: ٢١٥١۔ ۴۰: أخرجه البخاری في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة باب: مناقب عمر بن الخطاب، ١٣٤٨/٣، الرقم: ٣٤٨٤، و ابن سعد في الطبقات الكبرى، ۲۹۲/۳۔

عَنْ بَعْضِ شَانِهِ يَعْنِي: عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِينَ قُبْصَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَادَ حَتَّى انتَهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

”حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بعض حالات پوچھے تو میں نے انہیں بتایا کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی وفات کے بعد میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما جیسا نیک اور تھی نہیں دیکھا گویا یہ خوبیاں تو آپ کی ذات پر ختم ہو گئی تھیں۔“
اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

٤١ / ١٤٩ . عَنْ أَبِي الطْفَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّاسُمُ كَانِي أَنْزَعْ أَرْضًا، وَرَدَثُ عَلَيَّ غَنْمٌ سُودٌ، وَغَنْمٌ عُفْرٌ، فَجَاءَ أَبُوبَكْرٍ فَنَزَعَ ذُنُوبَاً أَوْ ذُنُوبَيْنِ. وَفِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُهُ. ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَنَزَعَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا. فَمَلَأَ الْحَوْضَ وَأَرْوَى الْوَارِدَةَ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيَاً أَحْسَنَ نَزْعًا مِنْ عُمَرَ. فَأَوْلَى أَنَّ السُّودَ الْعَرَبُ، وَأَنَّ الْعُفَرَ الْعَجَمُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

”حضرت ابوظیل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے خواب دیکھا گویا میں ایک زمین سے جس میں مجھ پر کالی اور سرخی مائل سفید بکریاں وارد ہوئیں پانی کے ڈول نکال رہا ہوں پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے اور ان کو ڈول نکالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے پھر عمر

٤١ : أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ٤٥٥ / ٥، الرَّقْمُ: ٢٣٨٥٢، وَالْهَيْثَمِيُّ فِي مُجْمِعِ الزَّوَادِ، ٥ / ١٨٠ -

آئے۔ پس انہوں نے بھی ڈول نکالے تو وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ پھر آپ نے حوض بھر دیا اور وادر ہونے والی بکریوں کو سیراب کر دیا اور میں نے کسی کو عمر سے بڑھ کر ڈول نکالنے والا نہیں دیکھا اور میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کہ سیاہ بکریوں سے مراد عرب اور سرفی مائل سفید بکریوں سے مراد جنم ہیں۔“

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

٤٢/١٥٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى عُمَرَ وَ هُوَ مُسَجَّحٌ فَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ الَّقَى اللَّهُ بِمَا فِي صَحِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَاجِنِ.

رواءُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ حضرت عمرؓ کے پاس تشریف لائے اور وہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے تو حضرت علیؑ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے پھر فرمایا: لوگوں میں سے کوئی بھی میرے نزدیک اس چادر میں لپٹے ہوئے سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو پچھا اللہ تعالیٰ کے صحیفہ (یعنی قرآن) میں ہے وہ اسے اس کے منشاء کے مطابق نازل فرماتا ہے۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٤٣/١٥١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّيْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِأَهَمِّ

٤٢: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/١٠٠، الرقم: ٤٥٢٣، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٣٥٩، الرقم: ١٨٠٣٢٠.

٤٣: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٦١، الرقم: ١٢٥١، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/٥٨٦، الرقم: ١٢٧٣، والهشمي في مجمع الزوائد، ٩/٧٠.

مَلَائِكَتَهُ بَعِيْدِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَامَةً وَبَاهَيِ بَعْمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَاصَّةً۔

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.

”حضرت ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عرف کی رات کو فرشتوں کے سامنے اپنے تمام بندوں پر فخر کرتا ہے اور خاص طور پر حضرت عمر رض پر فخر کرتا ہے“،

اس حدیث کو امام طبرانی نے اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔

٤/٤٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ۔ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُونَعِيمٍ.

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رض سے روایت ہے کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ آسمانی سکون قلب حضرت عمر رض کی زبان سے ملپکتا تھا۔“

اس حدیث کو امام طبرانی، امام ابن ابی شیبہ اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔

٤/٤٥. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: يَا

٤٤: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٦٧٩، الرقم: ٨٨٢٧، و ابن أبي شيبة في المصنف، ٣٥٤/٦، الرقم: ٣١٩٧٤، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ١٧١/٢، الرقم: ٥٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٤٢/١، وابن راشد في الجامع، ٢٢٢/١١، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ٤٤٤، الرقم: ٧١١، والهيثمي في مجمع الروايد، ٦٧/٩۔

٤٥: أخرجه أبو يعلى في المسند، ١٧٩/٣، الرقم: ١٦٠٣، والطبراني في المعجم الأوسط، ١٥٨/٢، الرقم: ١٥٧٠، والروياني في المسند، ٣٦٧/٢، الرقم: ١٣٤٢، والديلمی في مسنده الفردوس، ٣٨٣/٥، الرقم:

- ٨٤٩٩ -

عَمَّارُ، أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفًا فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ حَدِّثْنِي بِفَضَائِلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لَوْ حَدَّثْتُكَ بِفَضَائِلِ عُمَرَ مِثْلَ مَا لَبِئَتْ نُوْحُ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا مَا نَفَدَتْ فَضَائِلُ عُمَرَ، وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةً مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْطَّبرَانِيُّ.

”حضرت عمار بن ياسر رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمار! ابھی میرے پاس جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا، اے جبراٹل مجھے آسمان والوں میں عمر کے فضائل کے بارے میں تاؤ۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر میں آپ کو اتنی مدت تک حضرت عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں جتنی مدت حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہے یعنی نو سو پچاس برس، تب بھی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ختم نہیں ہوں گے اور بے شک حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔“ اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ اور طبرانی نے بیان کیا ہے۔

٤٦/٤٥٤. عَنْ عَبْيِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَلَبِسَ عُمَرُ شِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . وَقَدْ كَانَ ذِبْحُ لِلْعَبَّاسِ فَرُخَانٌ . فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءُ بِدَمِ الْفَرُخَانِ فَاصَابَ عُمَرَ . وَفِيهِ دَمُ الْفَرُخَانِ . فَأَمَرَ عُمَرُ بِقْلَعِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ فَطَرَحَ شِيَابَهُ، وَلَبِسَ شِيَابَهُ غَيْرَ شِيَابَهُ ثُمَّ، جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: وَاللَّهِ، إِنَّهُ لِلْمُوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم،

٤٦: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١/٢١٠، الرقم: ١٧٩٠، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٨/٣٩١، الرقم: ٤٨٢۔

فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتُ عَلَى ظَهْرِيِّ، حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمُوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ . رَوَاهُ أَحَمَّدُ.

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما کے بھائی حضرت عبید الله بن عباس رضي الله عنهما کہتے ہیں کہ حضرت عباس ﷺ کے گھر کا ایک پرناہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ کے راستے کی طرف تھا ایک دفعہ حضرت عمر ﷺ نے جمعہ کے روز اپنے کپڑے پہنے اور اسی دن حضرت عباس کے لیے دو چوڑے ذبح کئے تھے پس جب پرناہ سے چزوں کے خون سے ملا ہوا پانی بننے لگا تو حضرت عمر ﷺ پر پانی کرا پس حضرت عمر ﷺ نے اس پرناہ کو وہاں سے اکھاڑنے کا حکم دے دیا پھر آپ ﷺ واپس لوٹ آئے اور اپنا وہ لباس اتارا اور نیا لباس پہننا پھر آکر لوگوں کی امامت کروائی۔ بعد میں حضرت عباس ﷺ آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہا: اے عمر! اللہ کی قسم! بے شک یہ اس جگہ پر نصب ہے جہاں حضور نبی اکرم ﷺ نے اس کو رکھا تھا۔ پس حضرت عمر ﷺ نے حضرت عباس ﷺ سے کہا اور میں اس وقت تک آپ سے تاکید کرتا رہوں گا جب تک آ؛ پس میری پیٹھ پر سوار ہو کر اس پرناہ کو اسی جگہ پر دوبارہ نہیں لگایتے جہاں حضور نبی اکرم ﷺ نے اس کو لگایا تھا پس حضرت عباس ﷺ نے ایسا ہی کیا۔“ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔

٤٧/١٥٥. عَنْ سَالِمٍ قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَيَّ عَلَيٌّ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كِتَابُكَ بِيَدِكَ، وَ شِفَاعَتُكُ بِلِسَانِكَ، أَخْرَجَنَا

٤٧: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٣٥٧، الرقم: ٣٢٠٠٤، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٦/١٨٥، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ١/٣٦٦۔

عُمَرُ مِنْ أَرْضِنَا فَارْدُدْنَا إِلَيْهَا فَقَالَ لَهُمْ عَلِيُّ: وَيَحْكُمُ إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدًا الْأَمْرِ وَلَا أَغْيِرُ صَنْعَةَ عُمَرَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت سالم رض بیان کرتے ہیں کہ اہل نجراں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی شفاعت آپ کی زبان میں ہے ہمیں عمر نے ہماری زمین سے نکال دیا ہے آپ ہمیں ہماری زمین کی طرف لوٹا دیں۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: تمہارا برا ہو بے شک عمر بالکل درست کام انجام دینے والے تھے اور میں ان کا کیا ہوا فیصلہ تبدیل نہیں کروں گا۔“ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٤٨/١٥٦ عنْ أَبِي السَّفْرِ قَالَ: رُئَيَ عَلَى عَلَى بُرْدَ كَانَ يُكْثُرُ لِبُسَهُ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَتُكْثِرُ لِبُسَ هَذَا الْبُرُدُ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَسَانِيَّ خَلِيلِي وَصَفِيفِي وَصَدِيقِي وَحَاصِي عُمَرُ إِنْ عُمَرَ نَاصِحُ اللَّهِ فَنَصَحَهُ اللَّهُ ثُمَّ بَكَى. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت ابوسفر رض بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر دیکھی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہنتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کثرت سے یہ چادر (کیوں) پہنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک یہ مجھے میرے نہایت پیارے اور خاص دوست عمر نے پہنائی تھی۔ بے شک عمر اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خالص بھلائی چاہی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔“ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٤٩/١٥٧ . عن الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيٌّ هَلَّا بِعُمَرَ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

”حضرت اسودؓ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ نے فرمایا: جب صالحین کا ذکر ہو تو جلدی سے حضرت عمرؓ کا نام نامی پکارا کرو۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٥٠/١٥٨ . عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِإِسْلَامِ حِصْنًا حَصِينًا، يَدْخُلُ فِيهِ إِلِّيْسَلَامُ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ انْتَلَمَ الْحِصْنُ. فَإِلِّيْسَلَامُ يَخْرُجُ مِنْهُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

”حضرت زید بن وہب حضرت عبد اللہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت عمرؓ اسلام کے لئے ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں اسلام محفوظ تھا اور اس سے باہر نہیں نکلتا تھا پس جب آپؐ کو شہید کر دیا گیا تو اسلام اس قلعے سے باہر نکل گیا یعنی غیر محفوظ ہو گیا اور اس کے بعد اس میں داخل نہیں ہوا (یعنی اس کے بعد قتوں کے حملوں سے امت محفوظ نہ رہی)۔“ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٥١/١٥٩ . عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا رَأَيْتُ عُمَرَ إِلَّا وَكَانَ يَبْيَنُ عَيْنَيْهِ مَلَكُ يُسَدِّدُهُ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

”حضرت ابو اولیؑ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا: میں نے

- ٤٩: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٣٥٤، الرقم: ٩٧٥.

- ٥٠: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٣٥٤، الرقم: ٩٧٧.

- ٥١: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٣٥٤، الرقم: ٩٨٣.

کبھی بھی حضرت عمرؓ کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو آپؓ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔“ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

۵۲/۱۶۰. عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَعْلَمَ بِاللهِ وَلَا أَقْرَأً لِكِتَابِ اللهِ، وَأَفْقَهَ فِي دِيْنِ اللهِ مِنْ عُمَرَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروقؓ سے بڑھ کر کوئی عالم باللہ نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ کا قاری دیکھا ہے اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کے دین کا فقیہ دیکھا ہے،“
اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

۵۳/۱۶۱. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ عِلْمَ عُمَرَ وُضِعَ فِي كَفَةٍ الْمِيزَانِ وَوُضِعَ عِلْمُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي كَفَةٍ لِرَجَحِ عِلْمِهِ بِعِلْمِهِمْ. قَالَ وَكَيْفُ: قَالَ الْأَعْمَشُ: فَانْكَرْتُ ذَلِكَ فَاتَّيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ وَمَا أَنْكَرْتُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَوَاللَّهِ، لَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنِّي لَا حُسْبُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْعِلْمِ ذَهَبَ يَوْمَ ذَهَبَ عُمَرُ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اگر حضرت عمرؓ کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام اہل زمین کا علم دوسرا پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً حضرت عمرؓ کا علم ان کے علم پر بھاری ہو گا۔ امام وکیپیڈیا کہتے ہیں کہ امام اعمش

- ۵۲: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ۳۵۵/۶، الرقم: ۹۸۷، ۹۸۰، ۳۱۰ - ۳۰۱۳۰.

- ۵۳: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۹/۱۶۳، الرقم: ۸۸۰، ۸۸۰، و ابن سعد في الطبقات الكبرى، ۲/۳۳۶، و ابن عبدالبر في التمهيد، ۳/۱۹۸، والهشمي في مجمع الزوائد، ۹/۶۹ -

نے فرمایا: میں نے اس چیز کا انکار کیا پس میں ابراہیم سے ملا اور ان کے سامنے یہ چیز بیان کی تو انہوں نے کہا میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ پس خدا کی قسم! ابن مسعود نے اس سے بھی بڑھ کر کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ علم کے دل حصوں میں سے نو حصے اس دن چلے گئے جس دن حضرت عمر رض اس دنیا سے وصال فرمائے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔

١٦٢ / ٥٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَقَيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْجِنِ فَصَارَ عَهُ، فَصَرَعَهُ الْإِنْسِيُّ فَقَالَ لَهُ الْإِنْسِيُّ: إِنِّي لَأَرَاكَ ضَئِيلًا شَخِيْنَا كَانَ ذُرِيْعَتَكَ ذُرِيْعَتِيْ كَلْبٌ فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ مَعْشِرُ الْجِنِ أَمْ أَنْتَ مِنْ بَيْنِهِمْ كَذَلِكَ قَالَ: لَا وَاللَّهِ إِنِّي مِنْهُمْ لَضَلِيلٌ، وَلَكِنْ عَاوِدُنِي الثَّانِيَةُ، فَإِنْ صَرَعْتَنِي عَلَمْتُكَ شَيْئًا يُنْفَعُكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: تَقْرَأُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُ الْقَيُوْمُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَقْرُؤُهَا فِي بَيْتٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ لَهُ خَبَجٌ كَخَبَجِ الْحِمَارِ لَا يَدْخُلُهُ حَتَّى تُصْبِحَ.

و زاد الطبراني: قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ؟ فَعَبَسَ عَبْدُ اللَّهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ: مَنْ يَكُونُ هُوَ إِلَّا عُمَرُ رض. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ وَالْطَّبَرَانِيُّ.

٥٤: أخرجه الدارمي في السنن، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل أول سورة البقرة و آية الكرسي، ٥٤٠ / ٢، الرقم: ٣٣٨١، والطبراني في المعجم الكبير، ١٦٦ / ٩، الرقم: ٨٨٢٦، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٧١ / ٩۔

”حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرامؓ میں سے ایک صحابی ایک جن کو ملا اور اس کے ساتھ کشتنی کی۔ پس حضور نبی اکرم ﷺ کے صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا پھر اسے کہا کہ تم نہایت کمزور اور دلبے پتلے ہو اور تمہارے ہاتھ کے کے ہاتھ کی طرح کمزور ہیں۔ کیا گروہ جنات اسی طرح کا ہوتا ہے؟ یا تم ان میں سے اس طرح ہو؟ تو وہ جن کہنے لگا: نہیں خدا کی قسم! میں ان سب میں سے ایک موٹا تازہ جن ہوں لیکن تم میرے ساتھ دوبارہ کشتنی کرو۔ پس اگر تم نے مجھے دوبارہ پچھاڑ دیا تو میں تمہیں ایسی چیز سکھاؤں گا جو تمہیں نفع دے گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ (انہوں نے اسے دوبارہ پچھاڑ دیا) تو جن نے کہا کیا تم ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ“ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ جن نے کہا: یہ جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان گدھے کی طرح ڈر کر بھاگتا ہے اور وہ اس گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک صبح نہ ہو جائے۔

امام طبرانی کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! اصحاب محمد ﷺ میں سے وہ آدمی کون سا تھا؟ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے پہلے تھوڑا تردید کیا لیکن پھر فرمایا: وہ حضرت عمر بن خطابؓ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟“ اس حدیث کو امام داری اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۱۶۳. عَنْ قُدَّامَةَ أَبْنِ مَظْعُونٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ عُشْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَ هُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ عُشْمَانُ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى شَيْئِهِ الْأَثَيَّةِ مِنَ الْعَرْجِ، فَضَغَطَتْ رَاحِلَتُهُ رَاحِلَةَ عُشْمَانَ وَ قَدْ مَضَتْ رَاحِلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَامَ الرَّكْبِ فَقَالَ عُشْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ: أَوْ جَعَتِي يَا

۵۵: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۳۸/۹، الرقم: ۸۳۲۱، والبيهقي في مجمع الزوائد، ۶/۶۰، والبيهقي في مجمع الزوائد، ۹/۷۲۔

غَلَقُ الْفِتْنَةِ، فَلَمَّا اسْتَهَلَّتِ الرَّوَاحِلُ دَنَا مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض
فَقَالَ : يَغْفِرُ اللَّهُ أَبَا السَّائِبِ مَا هَذَا الِإِسْمُ الَّذِي سَمِّيَتْنِيهِ؟ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ:
مَا أَنَا الَّذِي سَمِّيْتُكُمْ سَمَّا كُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا هُوَأَمَامُ الرَّكْبِ يَقْدِمُ
الْقَوْمَ مَرْرَتِ بِنَا يَوْمًا وَ نَحْنُ جَلُوسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ هَذَا غَلْقُ
الْفِتْنَةِ. وَ أَشَارَ بِيَدِهِ لَا يَزَالُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الْفِتْنَةِ بَابٌ شَدِيدُ الْغَلْقِ مَا
عَاشَ هَذَا بَيْنَ ظَهَرَانِكُمْ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ .

”حضرت قدامة بن مظعون رض“ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رض
نے حضرت عثمان بن مظعون رض کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر سوار تھے اور
عرج کے علاقے میں مقام اثایہ کی وادی میں چل رہے تھے کہ حضرت عمر رض کی سواری نے
حضرت عثمان رض کی سواری کو دھکا دیا۔ حضور نبی اکرم صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی سواری قافلہ کے آگے چل
رہی تھی تو حضرت عثمان رض نے کہا: اے فتنوں کو روکنے والے تو نے مجھے تکلیف دی
ہے۔ جب سواریاں رکیں تو حضرت عمر بن خطاب رض حضرت عثمان رض کے قریب گئے
اور کہا اے ابوسائب! اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے یہ کون سا نام ہے جو تو نے مجھے دیا
ہے؟ انہوں نے کہا: ایسا نہیں خدا کی فتنم! میں وہ نہیں ہوں جس نے تمہیں یہ نام دیا ہے
بلکہ حضور نبی اکرم صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے تمہیں یہ نام دیا ہے جو کہ آج اس لشکر کی قیادت فرمارہے
ہیں۔ ایک دن آپ ہمارے پاس سے گزرے۔ ہم حضور نبی اکرم صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں
بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: یہ شخص یعنی عمر (Din اور امت کے خلاف اٹھنے
والے) فتنوں کو روکنے والا ہے اور آپ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی طرف اشارہ بھی کیا اور فرمایا: یہ تمہارے
اور فتنوں کے درمیان ایک سختی سے بند کیا ہوا دروازہ ہے جب تک یہ تمہارے درمیان زندہ
ہے (فتنه تمہارے اندر داخل نہیں ہو سکے گا)۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥٦/١٦٤ عن أبي ذرٍ أَنَّهُ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَغَمَزَهَا، وَ كَانَ عُمَرُ رَجُلًا شَدِيدًا فَقَالَ: أَرْسِلْ يَدِي يَا قُلْ الْفِتْنَةُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَمَا قُلْ الْفِتْنَةُ؟ قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُصْلِحًا ذَاتَ يَوْمٍ، وَ رَسُولُ اللَّهِ مُصْلِحًا جَالِسًا، وَ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَجَلَسْتُ فِي آخِرِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصْلِحًا: لَا تُصِيبُكُمْ فِتْنَةً مَا دَامَ هَذَا فِيْكُمْ.

رواہ الطبرانی

”حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطابؓ کو ملے پس حضرت عمرؓ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہلا�ا۔ حضرت عمرؓ بہت مضبوط آدمی تھے تو حضرت ابوذرؓ نے کہا: اے ”قفل الفتنة“ (فتنوں کو روکنے والے دروازے کا تالا) میرا ہاتھ چھوڑیے۔ پس حضرت عمرؓ نے دریافت کیا یہ قفل الفتنة کیا ہے؟ حضرت ابوذرؓ نے کہا: ایک دن میں حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ ﷺ تشریف فرماتے اور لوگ آپ ﷺ کے ارد گرد جمع تھے۔ پس میں ان کے پیچے بیٹھ گیا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تمہیں اس وقت تک فتنہ نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ (عمر) تم میں موجود ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥٧/١٦٥ عن عُمَيْرَ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى كَعْبَ الْأَجْبَارِ فَقَالَ: يَا كَعْبُ، كَيْفَ تَجْدُ نَعْنَيِ؟ قَالَ: أَجْدُ نَعْتَكَ قَرْنًا

٥٦: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٢٦٨/٢، الرقم: ١٩٤٥

والعسقلاني في فتح الباري، ٦٠٦/٦، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٧٣/٩۔

٥٧: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١/٤٨، الرقم: ١٢٠، والشبياني في

الأحاديث المثانى، ١٢٦/١، الرقم: ١٣٣، وأبونعم في حلية الأولياء،

٦٥/٦، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٦٥/٩۔

مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: وَمَا فَرْنُ مِنْ حَدِيدٍ؟ قَالَ: أَمِيرُ سَدِيدٍ، لَا يَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَؤْمَةٌ لَا إِمَامٌ، قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِكَ حَلِيقَةٌ تَقْتُلُهُ فِتَةٌ ظَالِمَةٌ، قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ الْبَلَاءُ! رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت عمر بن ربيعة رض سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رض نے حضرت کعب الاحرار رض کو بلا بھیجا اور ان سے دریافت فرمایا: اے کعب! تم (تورات میں) ہماری تعریف کو کیسے پاتے ہو انہوں نے کہا میں (تورات میں) آپ رض کی تعریف کو لو ہے کے ایک سینگ کی طرح پاتا ہوں۔ آپ رض نے فرمایا: اور وہ لو ہے کا سینگ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا صاحب الرائے امیر، جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ آپ رض نے فرمایا: پھر اس کے بعد کیا ہو گا؟ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد ایک ایسا خلیفہ ہو گا جس کو ایک ظالم گروہ قتل کرے گا۔ آپ رض نے فرمایا: اس کے بعد کیا ہو گا؟ انہوں نے کہا: پھر اس کے بعد آزمائش ہو گی۔“
اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥٨/١٦٦. عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسِكَ الْإِسْلَامُ عَلَى مَوْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالطَّبرَانِيُّ.
”حضرت أبي بن كعب رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے جبرايل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسلام عمر کی موت پر رونے گا۔“
اس حدیث کو امام ابو نعیم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥٨: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ٢/١٧٥، والطبراني في المعجم الكبير، ١/٦٧، الرقم: ٦١، والديلمي في مسنن الفردوس، ٣/١٨٩، الرقم: ٤٥٢٣، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/٧٤۔